

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SENATE DEBATES

SENATE OF PAKISTAN

Wednesday, 21st August, 1985

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (in the State Bank Building), Islamabad, at 5.15 P.M. with Mr. Chairman (Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ان وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوًّا مُّخْتَدِعًا اِنَّمَا يَدْعُوهُٓا حِزْبًا لِّيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِيْرٌ اِنَّ مِنْ زَيْنٍ لَّهٗ سُوْءٌ عَمَلًا فَرَاةً هٰنَا فَاِنَّ اللّٰهَ لِيُضِلَّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا لِيَصْنَعُوْنَ

مترجم : کہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے۔
ترجمہ : لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروؤں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ جہلا جس شخص کو اس کے بد اعمال آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکو کار آدمی جیسا ہر سکتا ہے بیشک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SENATE DEBATES

SENATE OF PAKISTAN

Wednesday, 21st August, 1985

The Senate of Pakistan met in the Senate Hall (in the State Bank Building), Islamabad, at 5.15 P.M. with Mr. Chairman (Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْهُٓا حِزْبًا لِّیَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِیْرِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاَجْرٌ كَبِیْرٌ اَفَمَنْ زُیِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرٰ اَنْ هُنَّا فَاَنْ اللّٰهُ یُضِلْ مَنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ فَلَا تَذٰهَبُ نَفْسٌ عَلَیْهِمْ حَسْرَةٌ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ بِمَا یَصْنَعُوْنَ

مترجم : لوگو خدا کا وعدہ سچا ہے تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ (شیطان) فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو وہ اپنے پیروؤں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں ہوں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بھلا جس شخص کو اس کے بد اعمال آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے تو کیا وہ نیکو کار آدمی جیسا ہر سکتا ہے بیشک خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے واقف ہے۔

QUESTIONS AND ANSWERS

Mr. Chairman : Now we take up questions. Yes, Mir Dad Khel Sahib!

RUNNING OF ELECTRIC TRAIN BETWEEN SIBI AND QUETTA

45. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Railways be pleased to state whether there is any plan under consideration to run an electric train between Sibi and Quetta; if so, when?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: It is correct that Pakistan Railways has planned to run Electric Trains on Quetta/Sibi Section.

2. The Project has not yet been finally approved by ECNEC. The project will take 5 years to complete after approval.

Mr. Chairman : Next Question No. 46.

RUNNING OF ABASEEN EXPRESS FROM QUETTA TO PESHAWAR

46. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Railways be pleased to state whether there is any plan under the consideration of Government to run Abaseen Express from Quetta to Peshawar; if so the time by which the service will start?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: No such proposal is under consideration of the Government.

Mr. Chairman : Next Question No. 47.

RATES FIXED FOR RAILWAY COOLIES

47. *Mr. Abdur Rahim Mir Dad Khel: Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) the per trip rate (wage) fixed for the Railway coolie; and

(b) whether it is proposed to enhance the wage of this class of labour; if so, when?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti : (a) The railway coolie charges have been fixed @Rs. 2 per collie per trip for the carriage of luggage weighing upto 40 Kgs from 1st November, 1984.

(b) The Railway collie charges were increased from Rs. 1 to 2 with effect from 1st November, 1984. These charges are considered adequate and no further increase is under consideration at present.

Mr. Chairman : Next Question.

QUOTA OF SEATS RESERVED FOR GOVERNMENT
DEPARTMENTS BETWEEN KARACHI AND RAWALPINDI

48. *Maulana Kausar Niazi: Will the Minister for Railways be pleased to state the quota of seats reserved for different government departments in the trains running between Rawalpindi and Karachi and the percentage of seats, class-wise left for the general public after such reservation?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: A quota of 17 berths in air-conditioned class, 18 berths in first class sleeper and 12 berths 8 seats in second class has been set aside for utilization by different departments in Khyber Mial, Tezrao, Tezgam and Awam Express trains, between Rawalpindi and Karachi.

Class-wise percentage of accommodation left for use by the public is as under:—

ACC	88%
First Class Sleeper	93%
First Class Sitter	97%
Second Class	97%

Mr. Chairman : Next Question.

TENDER FOR AIR-CONDITIONING SYSTEM OF
ISLAMABAD HOSPITAL COMPLEX

49. *Maulana Kausar Niazi: Will the Minister for Health, Special Education and Social Welfare be pleased to state:

(a) the name of the firm which offered the lowest tender on demand for the heating air-conditioning system of Islamabad Hospital Complex;

[Maulana Kausar Niazi]

(b) whether it is a fact that the contract was not given to the firm which offered the lowest rates but, instead, it was given to a foreign firm, which was not even pre-qualified;

(c) whether it is further a fact that the consultants, appointed by the Government, namely, M/s. Engineering Associates, in their report of May 23, 1984, have stated that the machinery, being installed in the Complex by the said foreign firm has cutlived its usefulness;

(d) if reply to (c) above be in the affirmative, whether it is again a fact that the Government has suffered a loss of Rs. 8 crore on account of the said-unserviceable machinery; and

(e) if reply to (d) above in the affirmative, whether Government is prepared to appoint an Inquiry Committee, consisting of some members of Parliament, to inquire into the said national loss?

Malik Nur Hayat Noon : (a) M/s. Shahnawaz Limited.

(b) Yes.

(c) No.

(d) Not applicable.

(e) Not applicable.

Mr. Chairman : Next Question.

CHANGE OF ROUTE OF CHENAB EXPRESS 11 UP
AND 12 DOWN

50. *Prof. Khurshid Ahmed : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) whether the course of Chenab Express 11 and 12 Down between Karachi and Peshawar, which passing through Sargodha

Lalamusa and Rawalpindi, has now been changed to Sargodha, Kundian and Mianwali, depriving the people in and around Faisalabad of the facility to go to Rawalpindi directly by rail?

(b) whether the 55 Up and 56 Down, which used to go to Rawalpindi from Multan *via* Faisalabad, has also been discontinued?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: (a) Yes, the course of Chenab Express 11 up/12 Dn has been change *via* Sargodha-Kundian Mianwali-Attock City since 17th December, 1982 but it does not deprive the people in and around Faisalabad of direct train service between Faisalabad and Rawalpindi in the presence of Faisalabad Express 31 Up/32 Dn running between Faisalabad and Rawalpindi.

(b) Yes.

Mr. Chairman : Next Question.

RAIL LINK BETWEEN PESHAWAR AND KOHAT

51. *Major General (Retd.) Sherin Dil Khan Niazi: Will the Minister for Railways be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to establish a rail link between Peshawar and Kohat?

(b) whether it is cheaper to carry goods by road than by rail to and from the following railway stations:

- (i) Haripur Hazara to Karachi and *vice versa*;
- (ii) Peshawar to Karachi and *vice versa*;
- (iii) Kohat to Karachi and *vice versa*; and
- (iv) Bannu to Karachi and *vice versa*;

(c) whether there is any proposal to reduce the railway freight charges for the goods meant for export from N.W.F.P.?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: (a) No proposal to establish a rail link between Peshawar and Kohat is under consideration, at present.

[Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti]

(b) No. It is cheaper to carry the goods by rail.

(c) There is no specific proposal to reduce the Railway freight for export traffic, but Railways' rate structure permits quotation of reduced rates, provided the cost of transport is fully met and direction and volume of movement are found mutually beneficial for the Railway as well as the industries.

Mr. Chairman : Next Question.

WORKING CAPACITY OF KOHAT CEMENT FACTORY

52. *Major General (Retd.) Sherin Dil Khan Niazi : Will the Minister for Production be pleased to state :

(a) whether the Kohat cement factory is working to its capacity;

(b) whether it is a fact that not enough use is being made of the vast deposits of salt and Gypsum available in Kohat;

(c) whether it is also a fact that powered Gypsum can be used for the amelioration of saline and water logged soils; and

(d) whether Government is prepared and willing to supply Gypsum from N.W.F.P. for the reclamation projects in Sind and elsewhere?

Mr. Muhammad Khaqan Abbasi : (a) No. It is expected to achieve it during 1985-86.

(b) No. The total demand of salt and gypsum in NWFP for industrial and domestic use is being met from the Production within that Province.

(c) Yes.

(d) At present no such proposal is under consideration of the Government.

Mr. Chairman : Next Question.

POSTS WITH BPS REFERRED TO THE FEDERAL PUBLIC
SERVICE COMMISSION

53. *Nawabzada Jahangir Shah Jomezai: Will the Minister for Health, Special Education and Social Welfare be pleased to state:

(a) the number of posts, with BPS-referred to the Federal Public Service Commission for recruitment from the year 1983 to 1985;

- (i) In respect of Health Division?
- (ii) In respect of Social Welfare Division?

(b) The number of cases in which the recommendations of the Federal Public Service Commission were not accepted?

- (i) In respect of Health Division?
- (ii) In respect of Social Welfare Division?

(c) If the reply, to part-b (i) and b (ii) above be in affirmative, please state :—

- (i) the grade and designation of the post.
- (ii) whether the convention as recommended by the Establishment Division, was followed or not.
- (iii) If not, the reasons therefor?

Malik Nur Hayat Khan Noon: (a) (i) The number of posts with their BPS referred to FPSC during the year 1983 to 1985 are as under :—

BPS-21	1
BPS-20	4
BPS-19	2
BPS-18	10
BPS-17	52

(ii) BPS							No. of Post
16	6
17	19
18	7
19	4
Total ..							36

- (b) (i) One.
(ii) Nil.

- (c) The information regarding Health Division is hereunder :
- (i) BPS-21 Director Jinnah Postgraduate Medical Centre, Karachi.
 - (ii) The recommendation of the Federal Public Service Commission was not accepted in terms of Clause 8 of the Federal Public Service Commission Ordinance, 1977.
 - (iii) The President, being the appointing authority for BPS-21 post, was pleased to decide not to accept the advice of the Commission in terms of Clause 8 of the Federal Public Service Commission Ordinance, 1977 and the Commission was duly informed.

Mr. Chairman : Next Question.

INCURRED LOSS BY PAKISTAN RAILWAYS 1983 TO 1985

54. *Syed Abbas Shah: Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan Railways incurred a loss of Rs. 1332.5 million in 1983-84 and is estimated to have incurred a further loss of Rs. 888 million upto March, 1985 ;

(b) if so the measures, if any adopted, other than increasing the fares, to reduce this loss in future ;

(c) whether there is any plan under consideration to improve the performance of Railways which may provide modern and comfortable system of transportation; if so, the time by which it will be introduced; and

(d) whether persons having a wide ranging expertise exist in the Railway Board and Railway Administration if so, the names of such persons with details of their experience?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: (a) It is a fact that Pakistan Railways received a subsidy to the tune of Rs. 1332.5 million in 1983-84. Also the extent of subsidy upto March, 1985 in the fiscal year 1984-85 was Rs. 888.103 million.

(b) The following measures have been taken to minimise the loss in future;

- (i) Cancellation of 63 un-remunerative trains so far.
- (ii) Closing of 165 un-economic goods booking stations.
- (iii) Quotation of special reduced rates for certain commodities to generate additional traffic.

(c) Improvement on the Railway is a continuous process. 30 new D.E. Locomotives have already been purchased and are expected in service within this financial year. The maintenance facilities of DE locomotives are being modernized on Unit Exchange System Track rehabilitation programme has already been launched in phases. Telecommunication system is being improved through MICRO WAVE based telecommunication project. Signalling system at stations is being modernized. It is expected that these steps would result in visible improvement in the performance of Railway.

(d) A majority of the personnel both in the rank of officers and staff possess wide ranging expertise and experience in their respective trades and fields. Persons having expertise in Railway operations are only available in the Railway and no where-else. Similarly persons well-versed in the art of track maintenance can

[Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti]

only be found in the Railways and in no other department as also the persons responsible for maintenance of locomotives and carriages. Railway is a specialised technical department and employs persons who possess specialised training and expertise in their respective fields of working which is not available in any other department of the Government nor in the private sector. The number of such persons both in the Railway Administration and Railway Board is quite large and could not be conveniently named & listed individually. List of officers in Scale 20 and above comes to about 40. This list could be furnished to the honourable Member, if required.

Mr. Chairman : Next Question.

CONVERSION OF NARROW GAUGE RAILWAY LINE INTO WIDE GAUGE LINE

55. *Syed Abbas Shah : Will the Minister for Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the plan for converting the narrow gauge railway line Mari Indus to Bannu into wide gauge railway has been abandoned; if so the reasons therefor, and the expenditure incurred on this plan so far;

(b) if not the time by which this plan will be completed;

(c) whether the bridges over the railway line 'Mari Indus Bannu' on rivers Gumbila and Kurram near Pass Tung have become extremely dilapidated; and

(d) whether there is any scheme under consideration of the Government to replace said bridges?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: (a) Yes. The scheme for conversion of Mari indus—Bannu Section from Narrow Gauge to Broad Gauge was suspended due to paucity of funds. The expenditure incurred so far is Rs. 34.45 millions.

(b) There is no proposal, at present, under consideration to revive this project.

(c) No, the railway bridges on rivers Gambila and Kurram near Pass Tung are not dilapidated and are structurally sound and safe for the passage of trains.

(d) No, there is no scheme under consideration of the Government to replace these railway bridges.

Mr. Chairman : Next Question.

SPEED OF TRAINS BETWEEN BANNU AND MARI INDUS

56. *Malik Faridullah Khan: Will the Minister for Railways be pleased to state:

(a) whether it is fact that the train running on the narrow gauge between Bannu and Mari Indus has a speed of ten MPH;

(b) whether it is also a fact that some progress was made on laying the broad gauge track but the work has been suspended and if so, the reasons therefor; and

(c) whether the Government intends to construct the Gambila and Dera Tung Railway Bridges, which have become dilapidated and over-aged both the bridge are?

Nawabzada Abdul Ghafoor Khan Hoti: (a) No.

(b) Yes. The work was suspended in April, 1981 due to paucity of funds.

(c) There is no proposal under consideration to reconstruct the Gambila and Dera Tung (Kurram) Railway bridges as the same are structurally sound and safe for the passage of train.

Mr. Chairman : Next Question.

REDUCTION OF STAFF IN PAKISTAN EMBASSY IN LONDON

57. *Maulana Kausar Niazi: Will the Minister for Foreign Affairs be pleased to state:

(a) whether several Committees were set up in the past to consider from time to time the feasibility and advisability of reduction of staff in the Pakistan Embassy in London and all these Committees have submitted their reports;

(b) whether any recommendation of these Committees, have in particular that of the most recent one headed by D.G. EAD have been implemented and if so, which and to what extent.

Sahabzada Yaqub Khan: (a) Yes, a number of Committees were set up in the past to consider from time to time the feasibility of reducing the staff in the Pakistan Embassy London. These Committees did submit their reports on the subject.

(b) It was on the recommendation of these high level Committees that the posts listed below were abolished on the orders of the CMLA/President.

The President had approved to abolish the following posts in the Embassy of Pakistan, London in April, 1978:

Minister	1
Asstt-in-Charge	1
Assistant (Local)	2
Messenger (Local)	1
Total ..	5

In June, 1980 the following posts were retrenched:

Officers:	
Second Secretaries	2
Staff:	
Superintendent	1
Assistant	1

Senior Stationery Keeper (Office Keeper) ..	1
Night Guard/Watchman	3
Messengers	4
Stenographers	2
Clerks	7
<hr/>	
Total ..	21
<hr/>	

In addition to the above the following posts in the Office of Senior Accounts Officer, Embassy of Pakistan, London were also abolished with effect from 15th September, 1980:—

Accountant (Pak based)	1
Assistant Superintendent (Pak based)	3
Clerks (Local)	2
<hr/>	
Total ..	6
<hr/>	

As regards, report of the recent Committee headed by Secretary General, EAD, in October, 1984, the recommendations are under study and if found feasible, would be implemented.

PRIVILEGE MOTION RE: RELEASE OF MR. RASUL BAKHSH PALEJO

جناب جمیئر مین : بسم اللہ الرحمن الرحیم ، ایک تحریک استحقاق ہے وہ پہلے لیتے ہیں ۔
جناب مولانا کوثر نیازی صاحب !

مولانا کوثر نیازی : جناب میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ سینٹ کے پچھلے اجلاس میں میرے ایک ضمنی سوال پر وزیر داخلہ جناب محمد اسلم خان ٹھگ نے بتایا تھا حکومت انسانی بنیادوں پر سندھ کے سیاسی رہنما رسول بخش پٹیجو کی رہائی پر غور کر رہی ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی قدم اٹھایا جائیگا۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تقریباً پونے دو ماہ گزر جانے کے باوجود بھی اس ایوان میں کئے گئے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس سے اس ایوان کا استحقاق مجروح ہوا ہے۔ میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر بحث کی جائے۔

[Maulana Kausar Niazi]

جناب چیئرمین : تحریک کافی واضح ہے لیکن آپ اس سلسلے پر کچھ مزید عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو کر لیں۔

مولانا کوثر نیازی : میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب محمد اسلم خان خٹک اس ملک کے بہت تجربہ کار سیاسی راہنما ہیں اور مجھے معلوم ہے۔ وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی کارکن، جو عرصہ دراز سے قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا ہے اور اس وقت بہت سخت بیمار بھی ہے، رہا ہو۔ انہوں نے یقیناً کوشش بھی کی ہوگی اور مجھے یہ ذاتی طور پر معلوم ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ رہا ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں، پھر رکاوٹ کہاں ہے اور کیوں؟ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ وزیر داخلہ نے اس سلسلے میں جو اقدام کیا ہے۔ اس کی وضاحت فرمائیں categorically وہ ارشاد فرمائیں کہ وہ اس مظلوم کو کب تک رہا کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ شکریہ

جناب چیئرمین : شکریہ۔ جناب وزیر داخلہ صاحب

جناب محمد اسلم خان خٹک (وزیر داخلہ) : جناب والا! یہ معاملہ چند دن پہلے قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا تھا اور وہاں پر بھی ہم نے اس کا جواب دیا ہے۔ مولانا صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مطابق قانون یہ معاملہ آنا جلدی نہیں اٹھایا جاسکتا۔ بہر صورت میں انہیں یہ تسلی دیتا ہوں

کہ We are busy on this case اگر اس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں تو I will be greatful

مولانا کوثر نیازی : ہمیں مجبوراً مطمئن ہونا ہی پڑے گا، کیا کوننگے سوال یہ ہے کہ وہ کئی

سالوں سے اس سلسلے پر مصروف ہیں۔ اب کیا معلوم کہ یہ وعدہ کب پورا ہو، ایک شعر ہے

خواب ہو، دل ہو، تارہ ہو، کوئی وعدہ ہو

ٹوٹنے والی کسی شے کا بھر دسہ نہ کرو

جناب چیئرمین : یہ زلف کے سر ہونے والا قصہ ہے۔

جناب محمد اسلم خان خٹک : جناب والا! مولانا صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مرکزی حکومت

کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے لیکن Law & Order صوبائی مسئلہ ہے۔ اس سے زیادہ میں ان کی خدمت میں کیا عرض کروں۔

مولانا کوثر نیازی : رکارڈ کا اندازہ ہو گیا کہ گورنر صاحب شاید نہیں چاہتے۔

جناب چیئرمین : آپ شاید اس پر اصرار نہیں کریں گے۔

مولانا کوثر نیازی : بہر حال اب جا کر گورنر صاحب سے درخواست کریں گے۔

جناب محمد اسلم خان خشک : میں نے گورنر یا ادر کسی کا نام تو نہیں لیا لیکن جو میرا مطلب

تھا .. (مداخلت)

مولانا کوثر نیازی : بین السطور ہم نے پڑھ لیا۔

جناب چیئرمین : تو اس موشن پر اصرار نہیں کیا جا رہا۔ تحریک التواء احمد میاں سومرو

صاحب !

ADJ. MOTION Re: DECISION OF SHIFTING SIND AND BALUCHISTAN
COMMERCIAL AUDIT OFFICES FROM KARACHI TO LAHORE

Mr. Ahmed Mian Soomro : Sir, I beg to move :

“That the business of the House be adjourned to discuss the matter of urgent Public importance and of recent occurrence, namely the decision of the Federal Government to shift the Sind and Baluchistan Commercial Audit Offices from Karachi to Lahore as contained in the daily “The Leader” dated the 15th August, 1985. This has created great resentment and unrest in Sind and Baluchistan.”

Mr. Chairman : Is it being opposed?

Dr. Mahbubul Haq : I beg to oppose the Motion Sir, because the news is totally baseless.

Mr. Ahmed Mian Soomro : If the news is not correct Sir, then I don't press it.

Mr. Chairman : The Motion is not pressed. Next one, No. 21 Qazi Abdul Latif.

ADJ. MOTION Re: STATEMENT GIVEN BY THE FINANCE MINISTER
IN THE N.A. HOUSE

قاضی عبداللطیف: جناب والا! میں تحریک پیش کرتا ہوں کہ: سینیٹ کا اجلاس اہم ترین قومی اور ملکی مسئلہ کے لئے ملتوی کیا جائے۔ روزنامہ جنگ ۱۳ اگست ۱۹۸۵ء کی رپورٹ کے مطابق جناب ڈاکٹر محبوب الحق صاحب وزیر خزانہ نے قومی اسمبلی میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو مذہب کی بجائے قابلیت کی بنیاد پر ملازمتیں دی جاتی ہیں۔

جناب والا: اس بنیاد سے پاکستان کے نظریاتی ملک ہونے کے دعوے پر بڑی زد پڑتی ہے اس اجلاس کو ملتوی کر کے فوری وقوع پذیر مسئلہ پر بحث کا موقع دیا جائے۔

Dr. Mahbulul Haq: Mr. Chairman; I beg to oppose the Motion. Would you like to know the reason?

جناب چیرمین: اسکو oppose کر رہے ہیں آپ اگر کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو بے شک ارشاد فرمائیے۔

قاضی عبداللطیف: جناب والا! مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے محترم وزیر صاحب نے اسکی مخالفت کس بنیاد پر کی ہے۔ جب کہ آج کے قانون کے لحاظ سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جو نظریاتی ممالک ہیں ان میں غیر نظریاتی لوگوں کو اہم اور کلیدی آسامیوں پر متعین نہیں کیا جاتا۔ سوال کا جواب انہوں نے جواب دیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حکومت کے تمام عہدے اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ حالانکہ یہ مقصد نہیں ہوتا۔ کلیدی جنہیں اہم آسامیاں کہتے ہیں ان سے مراد وہ آسامیاں ہیں جو حکومت کی پالیسیوں اور حکومت کے اہم مہدوں پر اثر انداز ہوتی ہیں یہاں پر جو کہا گیا ہے شاید ہمارے وزیر خزانہ صاحب دستور کا اس لحاظ سے کوئی سہارا لیں گے کہ دستور کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ملازمتیں بغیر کسی مذہبی بنیاد کے دی جائیں گی لیکن میں گزارش کروں گا کہ دفعہ ۳۷ کے اندر جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے حقوق کا تحفظ دیا جائیگا۔ صوبائی اور مرکزی ملازمتوں کے اندر ان کا خیال رکھا جائے گا لیکن جب اس طرح ان کا تحفظ ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا کوئی تحفظ نہیں ہوگا

اس طرح ہمارے حقوق پر اثر انداز ہوگی یہ کہہ دینا کہ کسی شہری کا با اعتبار ڈگری پاکستان کے ملازمت میں تقرر کیا جائیگا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ اپنے ادراک پر ہے جو قاعدہ، کلیہ ہوتا ہے اسکو اگر اپنے اطلاق پر رکھا جائے اس پر کوئی تید نہ لگائی جائے یا اسے مستثنیٰ نہ کیا جائے وہ تو پھر اپنے اطلاق پر رہتا ہے لیکن اگر اسکو مقید کر دیا جائے یا کسی فرد کے لئے اسکے اندر کچھ تبدیلیاں کی جائیں۔ تو اسکی قطعیت اس میں باقی نہیں رہتی۔ اسکی کلیت باقی نہیں رہتی اور مخصوص بالا انداز بن جاتا ہے۔ اور اس سے باقی مستثنیات بھی ہوتی ہیں۔

میں مثال کے طور پر عرض کروں گا کہ آئین کے آرٹیکل ۲۵ کے اندر ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اور قانون کی نظر میں ساری تحفظ کے مستحق ہوں گے لیکن آرٹیکل ۲۴ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ صدر اور گورنر کے خلاف فوجداری دعوے کے لئے انہیں عدالت نہیں بلا سکتی۔ اسکا معنی یہ ہے کہ ایک آرٹیکل دوسرے آرٹیکل کی تشریح کرتا ہے اب یہاں پر بھی یہی صورت ہے کہ پہلے باب کے اندر یہ چیز آرٹیکل ۲۷ میں ہے کہ تمام شہری اپنی قابلیت کے لحاظ سے ملازمتوں میں آسکتے ہیں لیکن آرٹیکل ۳۶ اسکی تشریح کرتا ہے اور وہ صاف کہتا ہے کہ اگر آئینتوں کو اپنے حقوق اور تحفظ کی ضمانت دی جائے گی۔ لہذا انکے حقوق کے تحفظ یا اسکی ملازمتوں کے اندر حقوق کے تحفظ کا معنی یہی ہے کہ ان کے اپنے حقوق میں اور ان کو اپنے حقوق کے مطابق حق دیئے جائیں۔ لہذا اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کے نظریاتی ملک ہونے پر بڑی زبردستی ہے۔
جناب چیئرمین: شکریہ۔ جناب وزیر خزانہ صاحب!

Dr. Mahbubul Haq: Mr. Chairman, Sir, I would appreciate if the Member will listen to his Ear Phones because I want to be very precise.

جناب چیئرمین: فرما رہے ہیں کہ اگر ایئر فون استعمال کریں تو بہتر ہوگا انکو
precise ہونے کی ضرورت ہے۔

فاضلہ عبداللطیف: میری درخواست ہے کہ اردو میں فرمائیے۔

جناب چیئرمین: چونکہ رولز کے مطابق ان کا حق ہے اردو میں بولیں یا انگریزی میں بولیں۔ میں ان کا حق ان سے نہیں چھین سکتا۔

قاضی عبداللطیف : ہمیں نے تو صرف درخواست کی تھی درخواست نامنظور ہوئی۔

Dr. Mahbulul Haq : The news item to which the honourable Member has referred, basically relates to my reply given in the National Assembly. In response to a question about the recruitment of Qadianies in the Government services, I quoted at that time Article 27 Clause (1) of the Constitution which states;

“27. (1) No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth.”

The Provisos made in this article are to favour certain geographical areas which are backward and from where recruitment was to be encouraged for the second period on quota system. No discrimination whatsoever has been allowed by the Constitution on the basis of religion. Sir, this is the provision that I quoted in the Assembly on the floor of the House in response to a question. I had not realized that till now that quoting the Constitution on the floor of the National Assembly constitutes a breach of the privilege of the Senate. I cannot understand, Mr. Chairman, in what way there has been a breach of privilege either of honourable Member or the Senate.

قاضی عبداللطیف : پروانٹ آف آرڈر جناب !
میں نے تحریک استحقاق پیش نہیں کی حالانکہ اس آئین کی توہین ہوتی ہے میں نے
ایک تحریک التوا پیش کی ہے۔ اس واقعہ سے ملک کے اندر بڑی بے چینی پیدا ہوئی ہے۔

Dr. Mahbulul Haq : I correct myself.

Mr. Chairman : He has corrected.

Dr. Mahbulul Haq : I meant adjournment motion.

Nothing has been stated here, which is against the provisions of the Constitution. As such, if the honourable Members were to feel aggrieved whether the Constitution should or should not contain this provision, then the proper course is of course to suggest a constitutional amendment. The proper course is of course not to raise an adjournment motion on my statement which was merely quoting the Constitution in the National Assembly in the Question Hour and whatever questions arose there were satisfactorily answered. Let me say, Mr. Chairman, that the commitment to protect the rights fully, the rights of the minorities, was given by the Founder of this nation at the time of its birth. This sacred commitment is also woven into the national flag. The white segment in the national flag represents that very sacred commitment that minorities will be given equal rights with all the citizens of Pakistan. The same commitment is enshrined in the Constitution of 1973 and has been a part of the Government policies.

As such, Sir, we are working within the framework and there can be and there shall be no compromise on this commitment. So far as the Constitution is concerned, any interpretation or amendment that the Members may like to make has a very different course than that of adjournment motions. Thank you, Sir.

Mr. Chairman : Thank you.

تقاضی عبداللطیف : جناب والا! ہمارے محترم وزیر صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے آئین کا حوالہ دیا ہے اسی کے متعلق میں نے گزارش کی ہے کہ آپ نے آئین کی جس دفعہ کا حوالہ دیا وہ دفعہ ۲ ہے اور اسکے اندر ہر بات کہی گئی تھی لیکن دفعہ ۳۶ کے اندر تشریح کر دی گئی ہے اور آئین کی دفعہ ۸ کی ذیلی شق (۵) ہے جس میں یہ صاف کہا گیا ہے کہ اس باب میں عطا شدہ حقوق معطل نہیں کئے جائیں گے بجز اس کے کہ آئین میں اسکی بابت صراحت سے حکم موجود ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں اتلیتوں کا جو تحفظ کیا جا رہا ہے اسکی تشریح کر دی گئی ہے۔ اور جو سابقہ دفعہ تھی اسکی تشریح اس کے ساتھ ملا کر پڑھنی چاہیے اگر آپ اقلیتوں کو حقوق دے رہے ہیں اور ان کے حقوق کا تحفظ صوبے کے اندر

[Qazi Abdul Latif]

بھی اور مرکز کے اندر بھی ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں اور ان کا ہم نے تحفظ کرنا ہے ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم نے اقلیتوں کو حقوق نہیں دیئے۔ اسلام اقلیتوں کو حقوق دینے میں تمام مذاہب سے زیادہ فیاض ہے اس نے اپنی اقلیتوں کو بہت زیادہ حقوق دیئے ہیں لیکن ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مینوا میں بھی جہاں ہمارا سیفر ہے وہ بھی اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو انڈیا کے جہاد کے خلاف ہے۔

جناب چیئرمین : جناب قاضی صاحب اس مرحلے پر یہ سوال ہے کہ آیا یہ تحریک التواہ

قانوں اور معاہدہ کے مطابق admissible ہے جہاں تک اس کے merit کا تعلق میں اس کا فیصلہ بعد میں دوں گا۔

قاضی عبداللطیف : جناب والا اٹھیک ہے میں اس طرف نہیں جاؤں گا میں نے اس کے متعلق مثال بھی دی تھی آئین کی دفعہ ۲۵ کے اندر یہ ہے کہ تمام شہری تانوں کی نظر میں برابر اور تانوں کے مطابق مساوی تحفظ کے مستحق ہیں۔

جناب چیئرمین : یہ بات آپ نے کر دی تھی پروفیسر خورشید صاحب نے بھی اور میں نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے۔

قاضی عبداللطیف : لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا آریٹیکل ۲۴۸ کے اندر صدر اور گورنر کو (مداخلت)

Dr. Mahbubul Haq: So for the Constitution is concerned only the Supreme Court. (Interruption).

قاضی عبداللطیف : وہ میری تقریر میں مداخلت کر رہے ہیں۔

جناب چیئرمین : نہیں کر رہے ہیں۔

قاضی عبداللطیف : اب دفعہ ۲۵ کے اندر تمام شہریوں کو برابر حقوق دیئے گئے تھے لیکن دفعہ ۲۴۸ کے اندر یہ صاف کہہ دیا گیا ہے فوج داری مقدمات کے اندر عدالت صدر اور گورنر کو طلب نہیں کر سکتی اس کے معنی یہ ہے کہ بعض دفعات بعض کی تشریح کرتی ہیں۔ یہاں بھی بعض دفعات ان کی تشریح کر رہی ہیں اقلیتوں کے حقوق کے متعلق صاف کہہ دیا ہے ان کے اپنے حقوق ہیں تو پھر اس کا معنی کیا ہے کہ تمام شہری برابر کے مستحق ہوں گے۔

جناب چیئرمین : محترم میں آپ کی توجہ دو چیزوں کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا جو ہمارے قواعد میں ردول ۵-۱-۱۷ اور K-۱۷-۱۷ ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا ایک میں یہ کہا گیا ہے کہ اس مضمون پر جو اسمبلی میں ذیہ سخت آپکا ہو چھ مہینے کے اندر دوسرے ابراں میں نہیں چھڑا جا سکتا۔ یہ ایک نکتہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تحریک التوائے کار اس موضوع سے تعلق نہ رکھے جو کہ صرف قانون کے ذریعے ہی درست ہو سکتا ہے۔ یہاں قانون کا مسئلہ نہیں یہاں تو آئین کا مسئلہ ہے آپ نے جو آئین کی توضیح کی ہے وہ میرے خیال میں کچھ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ پہلا آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے اور یہی وزیر قزاق صاحب نے بھی ارشاد فرمایا جہاں تک آرٹیکل ۲۷ کا تعلق ہے چونکہ میرے پاس انگریزی کا ہی نسخہ ہے وہ میں پڑھے دیتا ہوں۔

“Article 27 (1)—No citizen otherwise qualified for appointment in the service of Pakistan shall be discriminated against in respect of any such appointment on the ground only of race, religion, caste, sex, residence or place of birth.”

یہ ایک حق کا یا حقوق کا خواہ وہ اقلیت میں ہیں یا اکثریت میں ہیں ان کا تعین کرتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ استثنیٰ بناتا ہے وہ استثنیٰ نہیں وہ آرٹیکل ۳۶ ہے جو اس کی مزید confirmation کرتا ہے یا اس کو اور استحکام بخشتا ہے۔ کہ ان کو یہ حق جو یہاں define ہوا ہے کہ اقلیت کی وجہ سے یا مذہب کے اعتبار سے ان کی خلاف کوئی نہیں ہوگی۔ اس کو وہ further تحفظ دیتے ہیں

The state shall safeguard their legitimate rights

ان کا جو حق قانونی بناتا ہے چنانچہ آرٹیکل ۱۲ کے قانونی حق کی تعریف کرتا ہے اور آرٹیکل ۳۶ اس کو مزید تقویت دیتا ہے جو چیز یہ آپ فرمادے ہیں کہ وہ کئی ایک استثنیٰ ہیں آرٹیکل ۲۱ میں صدر صاحب کا بھی استثنیٰ ہے۔ کوئی اس ملک کا صدر نہیں بن

[Mr. Chairman]

سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو لیکن اس آئین نے خود آئینوں کے متعلق rights define کئے ہیں۔ ایک میں ان کے حق کی تعریف ہے دوسرے میں اس حق کی حفاظت کی مزید تشریح ہے۔۔ قاضی عبداللطیف صاحب! یہ اس کی تائید نہیں بلکہ یہ خود اس کی تشریح ہے اس لئے آپ کا موشن مسترد کیا جاتا ہے۔

disallowed; your motion is Out of Order. Next.

تحریک التوائے کار نمبر ۲۳ آپ کی ہے۔ صاحبی ملک فرید اللہ صاحب نمبر ۲۳ ادرہ ۲۵ ایک ہی مضمون کی ہیں۔

ADJ. MOTION Re: PAKISTAN'S AIR SPACE VIOLATION BY AFGHAN AIRCRAFTS

Malik Faridullah Khan: I beg to move that the Business of the House be adjourned to discuss a matter of urgent public importance namely, four Afghan Aircrafts violated Pakistani air space on Monday, the 19th August, 1985 at 6.00 hour in Parachanar and raided a village by bombing and as a result thereof 8 precious lives were lost and 12 injured and a large number of cattle were also killed. The protests lodged to the Afghan authorities in connection with these day-to-day violations have become a common practice while on the other hand the situation is extremely critical and alarming.

جناب چیرمین: اسی مضمون کی جناب سیمح الحق صاحب کی تحریک التوا ہے اگر وہ ہاؤس میں موجود ہیں وہ بھی پڑھ کر سنا دیں موجود انہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔
Is the Motion being opposed.
آپ اس پر کچھ کہنا پسند کریں گے؟

Mr. Zain Noorani: Yes, Sir, it is being opposed.

ملک فرید اللہ خان: جناب والا! یہ جو دعتات ہیں ادرہ سرحدات کی جو ضلعات ددتری ہوتی ہے یہ آگے دن کا ایک معمول بتتا جا رہا ہے ادرہ سرحد پر رہنے والے لوگوں کو اس کا احساس ہے ادرہ ان کو جو تکالیف دلائے مزہ درپیش ہیں اس کے پیش نظر میں نے تحریک التوا پر پیش کی ہے۔

جناب دالا: وزیر مملکت صاحب بھی جواب دیں گے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے اور ہم اس کے خلاف باقاعدہ ایلیشن لے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احتجاج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب سننے میں آیا ہے کہ اس مقنون کے مراسلے سائیکلو سٹائل کٹے پڑے ہوئے ہیں اور جب بھی غلات و درزی ہوتی ہے اور جب طیارے گھسی آتے ہیں تو وہ میز کی ددا سے مراسلہ نکال کے افغانستان کے سفیر کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان اس پر شدید احتجاج کرتا ہے۔

جناب چیمبرلین: میرے خیال میں کل مولانا کوثر نیازی صاحب نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب میں۔ کچھ تو پیش بندی ہوتی چاہیے۔
ملک فرید اللہ خان: جناب دالا! یہ تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ بہر حال چونکہ یہ روزانہ کا معمول بننا جا رہا ہے اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کے متعلق حکومت کوئی عملی قدم اٹھائے۔ کیوں کہ یہ ایک حد تک خطرناک اور تشویش ناک اس لیے بھی ہے کہ ہمارے لاگ سرمدات سے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ تو اس میں ہوتا ہے ہم جو دہاں کے رہنے والے لوگ ہیں لیکن میں وزیر خارجہ صاحب کی خدمت میں اتنا عرض کروں گا کہ چونکہ یہ ملک کی موت اور زندگی کا سوال ہے اور پھر اس کے ذمینی حملے بھی شروع ہوں گے اور وہ مزید encourage ہو گئے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پر بحث کی اجازت دی جائے یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور میں وزیر خارجہ صاحب سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ بذات خود اس کا ایلیشن لیں اور ہاؤس کو مطمئن کریں۔
جناب محمد علی خان ہوتی: پوائنٹ آف انفرامیشن۔

جناب چیمبرلین: جی۔ انفرامیشن تو کوئی پوائنٹ نہیں ہوتا لیکن آپ فرمائیں۔
جناب محمد علی خان ہوتی: جناب دالا! کیا یہ صحیح ہے کہ افغانستان کے سفیر نے ہمارے قادن آفس کو لکھا ہے کہ مجھے آپ روزانہ بتاتے ہیں ہذا آپ کو چاہیے کہ مجھے آپ ایک کمرہ۔ یہاں قادن آفس میں دے دیں۔ تو میں روزانہ اپنی کوٹھی سے نہیں آیا کروں گا بلکہ ہمیں رہوں گا۔

جناب چیمبرین: میرے خیال میں یہ معاملہ واقعی سنگین ہے اور کافی اہمیت رکھتا ہے اس لیے بہتر ہے اگر کوئی دوسرے صاحبان اس پر اظہار خیال کرنا چاہیں یعنی دو تین اصحاب اس پر بولنا چاہیں تو میں ان کو اجازت دے دوں گا۔

Before I request the honourable Foreign Minister or Minister for State.

جناب میرداد فیصل صاحب! آپ محقر فرمائیں کیوں کہ وقت بھی تمام ایک التوا کا ختم ہو رہا ہے۔

جناب عبدالرحیم میرداد فیصل: جناب والا! ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے تحفظ اور بقا کے لیے وزیر بھی اس میں اہم حصہ اور دلدادہ کریں اور ایک معمولی کال کن محنت کش مزدور بھی اس کی حفاظت کے لئے اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار رہے لیکن تیاری کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تار بڑ توڑ جلے کرتے جائیں اور ہم صرف احتجاجی مراسلہ اور اخبارات کی شہ سرخیوں جیسے ہائر آڈاؤں دیتے ہیں کہ پاکستان میں نمایاں جگہ جلے ہوئے، پڑھی اکتفا کریں بلکہ اس کی پیش بندی ہونی چاہیے اور ہماری وزارت خارجہ کو سنگین مسائل کے لئے ایک ہمہ وقت اور صحیح طور پر راہنمائی کرنی چاہیے۔

اس کے لئے ایک کمیٹی قائم کریں اور اس پر یاد باد عائد کریں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور ہم نے اس کی حفاظت کرنے کے لئے کس قسم کی تدابیر کی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے اور ہمیشہ ہیٹر کے لئے اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔

جناب چیمبرین: شکریہ۔ جناب مولانا کوثر نیازی صاحب!

مولانا کوثر نیازی: جناب والا! میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سائنس والہ technicalities میں بہت strict ہیں مگر کبھی کبھی آپ میں بہت لچک آجاتی ہے۔ یہ بہت اچھا ہے۔ یہ سکہ جو اس وقت اٹھایا گیا ہے بہت اہم ہے لیکن ہمارے محترم نوردانی صاحب اس پر اسمبلی میں ایک تفصیلی

تین روز قبل دے چکے ہیں محض ایسی باتیں دھرانا statement

کہ جن کا کوئی عملی نتیجہ نہ ہو ٹھیک نہیں۔ یہ ایک بہت sensitive
مسئلہ ہے۔ افغانستان صرف افغانستان نہیں ہے بلکہ کچھ اور بھی ہے۔ تو ایسی
باتیں باد بار دھرانے سے کیا فائدہ کہ جو ہم کرتے آ رہے ہیں اسے ادھر ٹھیکنکی یہ بات یہاں
admit نہیں ہو سکتی۔

admissibility

میناب چیمبرینی : ہم اس نتیجے پر صرف
چچ بات کر رہے ہیں۔ میناب احمد میاں صاحب !

Mr. Ahmed Mian Soomro : Mr. Chairman, Sir, I think this is a matter in which we cannot be sentimental if we have faith in our Foreign Office, because they are aware of things we are not aware of such things at all. It is a very sensitive matter and he has very rightly said that that is not a question of merely of Afghanistan. It is something very much larger. Either we have no faith in our foreign office and they should quit their job, but since we do have faith in them, they know what is at the other end, and they promised to take the House into confidence at a later stage and probably in camera. Because these are the things which cannot be discussed in public in the interest of solidarity of the country.

Mr. Chairman : Who is going to reply.

Mr. Zain Noorani : I said that I oppose the admissibility of this motion and I am so happy that the mover himself has given all the reasons why this is not admissible. He has admitted that this is a chain of events and not one single incident. When he himself says that a large number of protests have been given with regard to such incidents.

As you know Rule 71 (d) stipulates that such motion cannot be admitted. At the same time it has been mentioned by another

[Mr. Zain Noorani]

worthy Member that I had made a detailed statement on the floor of the National Assembly yesterday with regard to this incident. I feel that due respect must be paid to this august House, the upper House of Pakistan, and therefore, it is right and proper that a statement on this subject should be made by me on behalf of the Foreign Ministry, but before I go to the statement, I say I am happy but I am a bit sad also. Sad not only because of the loss of lives in the incident, but also with the attitude an honourable Senator with vast experience who has been sitting in Ministerial jobs and has today treated this matter in such a light way that it amounts to converting a serious matter which resulted in the loss of lives of so many of our people, into a joke. I wish we would all consider these matters seriously. Now Sir, this is the statement which I would like to make for the benefit of the Senators.

The unprovoked and cowardly attack on unarmed Pakistani Civilian residents of the village, Khewas, near Parachinar by fighter aircraft of the puppet Karmal regime on the morning of August 19, 1985 was a blatant act of aggression against Pakistan. The loss of lives, injuries to persons and extensive damage to property that resulted from the aerial bombing of Khewas have rightly aroused the indignation of the whole nation.

These dastardly attacks on unarmed civilians and refugees in Pakistan fall into a well known pattern. The Kabul regime's attack on the village of Sweer in Chitral on May 31, 1985 coincided with the departure of the Personal Representative of the UN Secretary General, Mr. Cordovez, from Islamabad at the conclusion of his shuttle visit to the region in preparation for the fourth round of the Geneva Talks. Later, during the fourth round itself on June 22, the border militia forces of the puppet regime in Kabul shelled the town of Chaman in Baluchistan. Now, on the eve of the departure of our delegation for the fifth round of Indirect Talks at Geneva, yet another act of aggression has been committed by the criminal and illegal regime in Kabul.

The intention behind this pattern of unprovoked attack is obvious. It is designed to undermine the prospects for a negotiated political settlement or to erode a principled stand that Pakistan has taken on the withdrawal of Soviet troops and ensuring the safe and honourable return of the Afghan refugees to their homes. Without the fulfilment of these objectives a political settlement would be meaningless. The Karmal regime, that stands isolated and ostracised by the international community has brutalised and butchered the Afghan people over the past five and a half years. This process is continuing. We can not be a party to the betrayal of the cause of our Muslim brothers in Afghanistan.

Such attempts to pressurise and to cow down the people of Pakistan into withdrawing their support for a principled and a negotiated settlement are doomed to failure. The puppet regime in Kabul also hoped to provoke the Government of Pakistan into acts of retaliation which would lead to an escalation of military tension and would aggravate the sufferings of the people on both sides of the border. The puppets in Kabul think nothing of raining bombs and artillery shells on their own unfortunate people. But we in Pakistan would certainly wish to avoid any action that would add to the already unbearable sufferings of our Afghan brethren. As the honourable Members are well aware it has been the constant endeavour of the people and government of Pakistan to do whatever is possible within their limited resources to relieve the distress, and to reduce the sufferings of their Afghan brethren. This is why we have deliberately refrained from retaliating against these unprovoked acts of aggression.

Moreover, we have two further considerations. One has been our desire to avoid heightening the tension and the other has been our desire to maintain an atmosphere in which the prospects for a negotiated political settlement of the Afghan problem could be kept alive. We are convinced that the Afghanistan problem admits of no military solution. As this reality dawns on the other side, as indeed it must after six years of blood-shed and failure, I am sanguine that our

[Mr. Zain Noorani]

serious and sincere pursuit of a just and equitable solution will bear fruit. There are also technical considerations relating to the strengthening of defensive measures along a border which stretches across some two thousand Kilo meters; but I am sure the honourable Senators would agree that it would not be in the national interest to go into the details of the measures that are being taken to defend our borders. Our capacity and determination to defend our nation at all costs should never be doubted for a moment.

In giving just and understandable rein to expressions of outrage and anger against the criminal actions of the illegal puppet regime in Kabul I must, however, urge upon the esteemed members of the Senate not to lose sight of the responsibility we all share to do every thing, even in these most adverse and provocative circumstances, to make possible a principled settlement of the Afghan problem, which would relieve the ordeal of our brethern in Afghanistan and also enable those who have sought shelter with us to return to their homes in safety and honour.

جناب چیرمین: شکریہ! اس توضیحی بیان کے بعد ہم سب کو وزیرِ مملکت برائے امور خارجہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی detail سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور دفتر خارجہ کا پوائنٹ آف دیویشن کیا۔ مجھے امید ہے کہ آئریبل جمراہی اس تحریک پر اصرار نہیں کریں گے۔

The motion is not pressed. The half an hour of the Adjournment Motions, I think, is over. Now, we come to the main item of Orders of the Day. We start discussion on the Revival of the Political Parties.

مولانا سمیع الحق: جناب والا، تحریک التواء ترمیمی تھی لیکن مجھے سوالات کا معلوم نہیں تھا کہ آج نہیں ہوں گے۔

جناب چیرمین: آپ کا نام بلا یا گیا تھا، اس وقت آپ حاضر نہیں تھے۔
مولانا سمیع الحق: میرا خیال تھا کہ تحریک التواء کا وقت سواچھ بجے کے بعد شروع ہو گا۔ سوالات کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اندازہ نہیں ہوا۔

جناب چیرمین : خیال اور حقیقت میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے۔

مولانا سمیع الحق : میں ان کے بیان کے بعد اپنی مروضات پیش کر دوں گا، امید ہے کہ

وہ قبول فرمائیں گے۔

جناب چیرمین : خیال اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔

مولانا سمیع الحق : میں جناب، وزیر متعلقہ کو پیش کر دوں گا۔

DISCUSSION ON THE REPORT OF SPECIAL COMMITTEE ON THE REVIVAL
OF POLITICAL PARTIES ACT

Mr. Chairman. We take the next item, discussion on the

Report of Special Committee on the Revival of Political Parties' Act.

The first speaker in the list is Mr. Muhammad Ali Khan Hoti.

میری ایک دفعہ چھ گزارش ہو گئی کہ جبران کی لیٹ کافنی لمبی ہے اس لئے اپنی مروضات کو
مزدوری نکالتے تک محدود رکھیں اور مختصر اظہار خیال کریں۔

جناب محمد علی خان ہوتی : میں جناب والا! فانا فدا محمد فانا اور اراکین سبیشنل کمیٹی کو

مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نہایت جانفشانی سے بہت ہی قلیل وقت میں اپنی
سفارشات مرتب کر کے اس ہاؤس کے معزز جبران کو اس پر بحث کرنے کا موقع عطا فرمایا۔

اس کے ساتھ ہی ساتھ میں وزیر اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں
نے ۱۱ اگست کو ایک تاریخ ساز جلسے میں ایک تاریخی اعلان فرمایا جس میں کہا

گیا کہ اٹھارہ سال لڑنے کے آغاز سے قبل ہی اس ملک سے مارشل لاء کا نام و نشان تک
ہٹیں ہو گا۔ اب عوام کو چاہیے کہ مارشل لاء کے اٹھائے جانے کے بارے میں ان

کے دلوں میں یقین بھی شکوک و شبہات ہیں وہ ختم کر دیں۔

جناب والا! اسی طرح ایم آر ڈی کے لیڈر، جن کو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر

آ رہا ہے، ان کو بھی حقیقت دکھانی چاہیے اور وزیر اعظم کے اس پر فلسفہ اعلان پر انہیں یقین
کرنا چاہیے اور انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ کر رہے ہیں حقے اس سے کچھ

حاصل نہیں ہوا۔

[Mr. Muhammad Ali Khan Hoti]

Movement for Restoration of Democracy was only a propaganda for the restoration of democracy.

جمہوریت کی بحالی کے سلسلے میں اقدامات نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے حیران نے اٹھائے ہیں اور اس کا سہرا اسی حکومت کے سر پر ہوگا۔ اب ان کو چاہئے کہ وہ اپنا نام تبدیل کر لیں۔ آج سے ہم ایم آر ٹی والے بن گئے اور وہ آج سے پی آر ٹی والے بن گئے۔

PRD Propagandist for the Restoration of Democracy.

جناب والا! انہی لوگوں نے سینٹ کی کمیٹی کے بارے میں کافی پرنسپلنگ کیا اور یہ کہا گیا کہ اب مارشل لا کو طول دینے کی خاطر ایک نئی کمیٹی بنا لی گئی ہے تاکہ اس سارے معاملے کو کوآرڈینیٹڈ بیج میں ڈالا جاسکے۔ انہوں نے روزانہ اس کے خلاف اخبارات میں بیانات بھی دیئے اور ٹیلیو میں بھی اس کے خلاف تقاریر کیں لیکن اس طعن و تشنیع کی پروا نہ کرتے ہوئے اس کمیٹی کے اراکین نے نہایت تندہی اور خلوص کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا اور اپنی سفارشات اس طریقے سے مرتب کیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کی سفارشات سے یہ رپورٹ زیادہ لبرل اور قابل عمل ہے۔

جناب والا! ایک ناصح تجربے اس کے خلاف ایک اختلافی نوٹ لکھا، اس نوٹ میں انہوں نے فرمایا کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں ایک بل بنایا جائے تاکہ نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں اسے پیش کر کے اس پر ہلڈز جلد کا دروازی کی جائے تاکہ ۱۳ اگست کو مارشل لا کے ہٹائے جانے کا اعلان کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز یا ریزولوشن وزیر عدل کی طرف سے آتی تو یقیناً وہ صاحب، جنہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اس کے بارے میں تحریک استحقاق پیش کرتے کہ اس سے اس ایوان کا وقار جرح ہوا ہے۔ اس پر ہمیں بحث و تمحیص کرنے کا کوئی وقت نہیں ملا۔ چونکہ صاحب موصوف یہاں حاضر نہیں ہیں لہذا میں اس پر مزید کچھ کہنے سے احتراز کروں گا۔

جناب والا! جہاں تک سفارشات کا تعلق ہے، کمیٹی کے سامنے ۱۹۶۲ کا پولیٹیکل ایکٹ موجود تھا۔ اور اس میں کئی بار ترامیم کی گئی تھیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ترامیم کا جگہ اسے

ایک نئی قانونی شکل دی جائے اور نیا قانون جو بنایا جائے وہ موجودہ حالات کے تقاضوں کے عین مطابق ہو، اور ان کے معیار پر پورا اتر سکے۔ انہوں نے اس بارے میں غیر ملکی قوانین کا بھی بغور مطالعہ کیا، جائزہ لیا، اور اس سے استفادہ بھی کیا۔ اس کمیٹی نے نہ صرف پریٹیکل پارٹیز کی وضاحت کی بلکہ فارن فنڈڈ (Foreign funded) اور فارن ایڈڈ (Foreign Aided) پارٹیز کی بھی وضاحت کر کے ان پر قدغن لگانے کی بھی سفارش کی ہے۔

جناب والا! جہاں تک رجسٹریشن کا تعلق ہے کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں رجسٹر شدہ ہیں، وہ خود بخود بحال ہو جائیں گی لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے رجسٹریشن اس وقت کرائی تھی۔ جب مارشل لا کے دوران انتخابات کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا۔ یہ رجسٹریشن انہوں نے انتخابات کے لیے کرائی تھی پر انہیں قوانین کے تحت، اب چونکہ ایک قانون از سر نو بنایا جا رہا ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جن پارٹیوں نے رجسٹریشن کرائی ہے، انہیں دوبارہ اس سلسلے میں رجسٹریشن کرائی چاہئے جب یہ نیا بل پاس ہو جائے۔ اب جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی ہے ان کے بارے میں اس کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ قوانین کے تحت اگر اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرانا چاہیں تو اس سلسلے میں انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی بلکہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی۔

جناب والا! تیسری بات انہوں نے یہ رکھی ہے کہ کوئی شخص بھی نئی پارٹی تشکیل دینا چاہے تو اس سلسلے میں کوئی پابندی غائد نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی طرف یہ پہلا جمہوری قدم ہے جس کی مخالفت بھی تو بیت کئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ پھر اس کے لئے انہوں نے ایک آسان طریقہ کار بھی مرتب کیا ہے، تمام جملہ مراحل طے کرنے کے لئے انہوں نے وقت کا تعین بھی کیا ہے۔ کمیٹی نے یہ سفارش کی ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت کسی بھی سیاسی پارٹی کے لئے کوئی بھی پابندی نہ ہو۔ جناب والا! یہ رجسٹریشن اس لئے ضروری سمجھی گئی۔ کہ پاکستان کو ہر تہ اسلام کے نام پر حاصل کیا یہ ایک نظریاتی حاکمیت ہے اس میں صرف

ایسی سیاسی پارٹیوں کو کام کرنے کی اجازت ہو جن کے پروگرام اور جن کے منشور نظریہ پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ ہوں اور انہیں پاکستان کی سالمیت پاکستان کے اتحاد، پاکستان کی بقا اور سالمیت

[Mr. Muhammad Ali Khan Hoti]

پر مکمل اعتماد ہو اور وہ اسلام کے زریں اصولوں کو چھوڑ کر کیسوں، نزم یا سوشلزم جیسے لادینی نظریات کی طرف ملتفت نہ ہوں اور نہ انہیں باہر حاکم سے خنڈنا اپنے کام کے لئے اپنے غلط نظریاتی پرچار کے لئے جہیا ہوں۔

جناب والا! بد قسمتی سے اس ملک میں کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں موجود ہیں جن کے غیر ملکی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ روابط رہے ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں باہر سے کام کرنے کے لئے زر کثیر مل رہا ہے۔ جناب والا! کچھ ان میں سے سیکرٹریز کی پارٹیاں ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ہر وقت ملک میں ایک کلاس دار شروع کرنے کے لئے پرتول رہی ہیں اور اپنے غیر ملکی آقاؤں کے استقبال کے لئے وہ ہر وقت انتظار میں بیٹھے ہیں۔ کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ انہیں بھی باہر سے امداد آ رہی ہے اور وہ دین میں توفیق ڈالنے کے لئے رات دن منہمک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے بھلائی کی توقع جو بھی کرے تو وہ احمقوں کی جنتوں کا میکین تصور ہوگا۔ جناب والا! یہ دہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے آزادی سے قبل تحریک پاکستان کی مخالفت کر کے سوادِ اعظم کو بے انتہا نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہوا بقول شخصے

مدعی لکھ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے
دہی ہوتا ہے جو منظور تھا ہوتا ہے

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عزائم کو خاک میں ملایا اور پاکستان بن کر رہا۔ جناب والا! اب بھی ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے صدق دل سے اس ملک کو نہیں اپنا یا اور آج بھی ہمارے کچھ مہربان لندن میں بیٹھے ہیں جو کہ اس ملک کے خلاف کنفیڈریشن کی سکیس مرتب کر رہے اور اس ملک کی سالمیت کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں۔ ان کے جو ساتھی اس ملک میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے آج تک ان کی مخالفت میں آواز تک نہیں اٹھائی بلکہ انہوں نے ان کے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لئے خود ساختہ تاویلات پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں یہ چیز اٹھائی ہے اور اسکے پیچھے کون سے محرکات تھے۔

جناب والا! کھیٹی نے اس شق کو رپورٹ میں شامل کر کے میں سمجھتا ہوں جب الوطنی کی آبیاری کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ جہاں تک پارٹیوں کے حساب

کتاب، چنانچہ پڑتال کا تعلق ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ ان کو یہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں اگر بالفرض ملک کے اندر وہ عطیات اور چنڈہ جات وصول کرتے ہوں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ ان کی آمدنی اور خرچ کیا ہے اس کا ہم موازنہ کریں کہ آیا وہ خود کفیل ہیں یا باہر سے دست غیب کے ذریعے انہیں لٹا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے دفاتر ان کے مراکز اور ان کے کارکنوں کو جو معقول تنخواہیں دی جاتی ہیں آیا یہ فنڈز ان کے لئے کافی ہیں جو ملک کے اندر وہ جزیٹ کر رہے ہیں اور اگر وہ ان کے لئے کوئی معقول جواز پیش کرنے سے قاصر ہوں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ لہذا ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے۔

جناب والا! جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور ہم کسی حالت میں بھی اس میں لادینی نظریات کے پرچار کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ کسی حالت میں ہم اس ملک کے استحکام کو متزلزل دیکھیں گے۔ لہذا تیسرے رجسٹریشن کی جو شق ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی جو شق ہے یا اس کے لئے جس طریق کار کی سفارش کی گئی ہے وہ بھی بنی برعادل و انصاف ہے اور جس سے کہ محب وطن پارٹیاں قلمبندی بھی ہیں ان کو خوف نہیں کھانا چاہیے کیونکہ تمام اختیارات عدلیہ کو دیئے گئے ہیں۔

جناب والا! انتخاب کی اہلیت کے لئے جو شق ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ دو فیصدی ووٹ اور یا انکے در اسمبلی کے جبران میں سمجھا ہوں کہ mushroom parties کو ختم کرنے کے لئے یہ شق کافی تھیں۔ چاہیے تھا کہ اس میں یہ چیز ہوتی کہ دس سیٹیں وفاقی اسمبلی کی اگر کوئی پارٹی نہ لے تو اس کو پارٹی تصور نہ کیا جائے اور اسکی تقسیم یوں ہو کہ پنجاب میں ۴، سندھ میں ۳، فزئیر میں ۲ اور بلوچستان میں ایک کم از کم دس سیٹیں پارٹی کے لئے حاصل کرنا لازمی تصور کیا جائے اور اگر اسی تناسب سے حاصل نہ کر سکیں تو پھر (overall) پاکستان میں ان کے لئے پندرہ سیٹوں کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اس سے کم اگر ہم نے دکھا تو ایسی ایسی پارٹیوں نے اپنے آپ کو پھپھی دفعہ غالباً ۱۹۷۹ء میں رجسٹر کیا تھا کہ جس کا نام جناب نے بھی آج تک نہیں سنا۔

[Mr. Muhammad Ali Khan Hoti]

اب رہا جناب! و ناداری کا مسکہ، اس پر کافی لے دے ہوئی ہے۔ جناب والا! حقوق الہی کی بجا آوری کے لئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز کے احکامات صادر فرمائے تو حکم صرف یہ ہوا کہ نماز کو قائم کر دینا ہے، یہ حکم نہیں ہوا کہ نماز کو پڑھا کر دو۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں جناب بعد المشرقیق ہے۔ یعنی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ لفظ اتمو عربی میں جو ہے اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، یعنی کہ جملہ شرائط، قواعد و ضوابط ایک تنظیم کے ساتھ نماز کو پڑھا کر اسی طرح اسلام نے، ہمیں تنظیم کا یہ سبق سکھایا ہے۔ لہذا جو نماز بغیر دستور کے باجائز نہ ہو اور اس کا جو طریقہ کار ہے اسی طرز پر نہ پڑھی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بارگاہِ خداوندی میں مقبول نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ذیوی کاہنوں کی کامیابی۔ جناب والا! تاہم اعظم نے بھی ہمیں اتحاد تنظیم اور یقین حکم کے نہری اصول دیتے ہیں اور اصل بات تو یہ ہے کہ

و ناداری بشرط استواری اصل ایمان ہے

مرے بت خانے میں تو گھبے میں گاڑو برین کو

جناب والا! یہاں مارشل لا سے پہلے یعنی پہلے مارشل لا کی بات کرتا ہوں اس سے پہلے و ناداری کی تبدیلیوں کے بارے میں کوئی لطفے لوگ منایا کرتے تھے ایک دفعہ پیشاور میں کہتے ہیں کہ ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ فلاں ملک کے وزیر اعظم کا نام بتائیں فلاں ملک کے وزیر اعظم کا نام بتائیں تو جتنے بھی مالک تھے ان کے ذرا لے اعظم کے نام اس نے بتائے لیکن کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی باری آئی تو بچے نے کچھ توقف سے کام لیا۔ لڑکے نے استاد کو کہا کہ حاضرش کیوں جو۔ اس نے کہا جناب والا! کل تک تو پاکستان کے وزیر اعظم فلاں صاحب تھے آج کراچی ٹیلی فون کر لیں اور پوچھ لیں کہ آج کون ہے۔ جناب والا! اداس میں مسلم لیگ ایک کمزور جماعت تھی کیوں کہ برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری عام نہیں تھی لیکن اس وقت بھی جب بھی کسی لیڈر نے پارٹی ڈسپن سے مرتابی کی تو اس کمزوری کی حالت میں تاہم اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے سے دریغ نہیں فرمایا اور ان کو خارج کر کے ہمیں ڈسپن کا سبق سکھایا۔ جناب والا! مولانا فضل حق مرحوم اور جی ایم سید کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب جب پارٹی کی تشکیل ہو جائے تو اس پارٹی میں شامل لوگوں کو اس پارٹی کا ڈسپن قبول کرنا ہوگا۔ کیوں کہ اس کے بغیر کوئی تنظیم، تنظیم ہی نہیں رہ سکتی۔ جناب والا! مولانا ردم اس سلسلے

میں اپنی مشنری میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں۔ کہ ایک آدمی ایک نقاش کے پاس اپنے ہاتھ پر تیسر کدہ کرانے کے لئے گیا جب اس نے رنگ بھر کے سوئی چھوئی۔ تو وہ چیخ اٹھا اور پوچھا کیا بنا رہے ہو، اس نے کہا کہ میں شیر کا سر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس کو چھوڑیے، پھر اس نے سوئی چھوئی تو پھر وہ چیخا کہ کیا بنا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں دم بنا رہا ہوں اس نے کہا کہ اس کو دھسے دو۔ پھر جب تیسری بار سوئی چھوئی پوچھا کیا بنا رہے ہو، اس نے کہا کہ میں پاؤں بنا رہا ہوں اور اس کے پیچے بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ تو نقاش نے کہا کہ کوئی اور چیز تو بن جائیگی لیکن شیر نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد مولانا صاحب خود فرماتے ہیں کہ جس شیر کا نہ سر ہو، نہ دم، نہ پاؤں نہ پیچے وہ کیا ہوگا، اس لئے میں کہتا ہوں جس پارٹی میں سرے سے ڈسپن کا فقدان ہو تو اس گروہ کو پارٹی کہنا نہیں سمجھتا ہوں لفظ پارٹی کی توہین ہوگی۔ لہذا میں بہت بجز دانکھاری سے آپ کی واسطت سے انہی اراکین کی خدمت میں یہ التجا کرتا ہوں کہ ان تجاویز پر غور و غرض کر کے جلد ہی پال کر لیں تاکہ وزیراعظم نے لاہور میں جو تاریخی اعلان فرمایا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے اور ہمیں پھر لوگ طعنہ نہ دیں اور ملک سے مارشل لار پر امن طریقے سے ہٹایا جاسکے۔ تاکہ اس ملک عزیز میں پھر جمہوریت کا دور دورہ ہو، و ما علینا الا البلاغ۔

جناب چیئرمین : جناب اصغر علی شاہ صاحب !

جناب اصغر علی شاہ : جناب چیئرمین صاحب ! خصوصی کمیٹی کی رپورٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک کے ذریعے وجود میں آیا تھا اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ صرف اور صرف جمہوری طریقے سے قائم رہ سکتا ہے۔ جناب بدرقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے بننے کے بعد تقریباً نو سال تک ہم آئین کا انتظام کرتے رہے اور بالآخر ۱۹۵۶ء میں ایک آئین نصیب ہوا لیکن اس آئین کو ابھی دو سال ہی گزرے تھے اور اس پر پوری طرح عمل بھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی جبر لائیکشن نہیں ہوئے تھے کہ ایک سلاشی کے ذریعے اس آئین کو منسوخ کر کے ملک میں پہلا سلاشل لاء نافذ ہوا، جناب والا! اس کے بعد ۱۹۶۲ء میں ایک آدمی کا بنایا ہوا آئین ہمارے آڈپرسلٹ کیا گیا لیکن پھر ۱۹۶۵ء میں اس آئین کے خاتمے خود ہی

[Mr. Asghar Ali Shah]

اپنے ہاتھوں سے اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس آئین کو منسوخ کیا اور ملک ایک بار پھر مائشل لاد کے حوالے کر دیا اس کے بعد الیکشن ہوئے اور ان الیکشنوں کے بعد ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہمارے ملک کا ایک آدھا حصہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اسی کے بعد ۱۹۷۳ء میں اس وقت کی قومی اسمبلی نے تقریباً سب پارٹیوں کی رائے سے ایک آئین بنایا اور پھر وہ آئین ۷۷ء سے محفل ہے۔ بیگزڈیشن ہے گو میں اس آئین سے مکمل طور پر اتفاق نہیں کرتا، مگر میں نہیں ہوں بلکہ پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کو متحد رکھنے کے لیے اس آئین کو اس کی اصل مداح کے مطابق نافذ کیا جائے۔

جناب والا! اب میں اس کیٹیج کی کچھ باتوں کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ باتوں کے متعلق عرض کر دیں گی۔ میں اس کیٹیج کو مبادیہ دیتا ہوں کہ انہوں نے برٹری کوشش سے ایک ریپورٹ تیار کی ہے۔ لیکن اس کی چند دفعات سے مجھے اختلاف ہے جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب والا! اس میں رجسٹریشن اور ڈی رجسٹریشن کے متعلق اختیار اس وقت الیکشن کمیشن کو حاصل ہے میرے خیال میں ہم اگر صائر جو ڈیٹری کو سیاسی سرگرمیوں سے متعلق نہ کریں تو ٹھیک رہے گا۔ اس کے متعلق میری تجویز یہ ہے کہ ایک الگ کمیشن مقرر کیا جائے پھر چاہے اس کا نام کچھ بھی رکھیں اس میں ہر صوبے سے ایک ممبر ہو، اور وہ ممبر جو ہر صوبہ سے ہر صوبے کا راجحیتنے کا اہل ہو اس آدمی کو مقرر کیا جائے اس میں سے باقی ڈیٹیشن ایک ممبر اس کا چیئر مین ہو اور اس کمیشن کی جو رٹمز آف سرورسز ہیں وہ قانون کے مطابق طے ہونی چاہیں اور ان کی ٹرم پانچ سال کے لئے ہونی چاہیے تاکہ وہ آزادی سے یہ کام کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے ہماری جو ڈیٹری کی آزادی بھی قائم رہے گی اور ان کا دنار بھی بلند ہوگا۔

جناب والا! dissolution of parties کے متعلق جو دفعہ ہے اس میں اس وقت یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت سپریم کورٹ کو ریفر کرے گی۔ میں تجویز کرتا ہوں۔ اس کی بجائے یہ جو کمیشن جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کو حکومت ریفر کرے۔ اس کو معطل نہ کرے اس کا

جو فیصلہ ہو، اور اس سے جو متاثرہ پارٹی ہے وہ پیریم کورٹ میں جاسکتی ہے۔ جناب والا! اب دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس رپورٹ میں پارٹی کے merger اور split کے متعلق کوئی تجویز نظر نہیں آتی۔ اگر دو پارٹیز merge ہونا چاہیں۔ یا کوئی پارٹی split ہونا چاہیے تو اس کے متعلق بھی قوانین میں کوئی گنجائش رکھی جائے۔

جناب والا! اب میں پارٹی کے انتخابات میں حصہ لینے کے لئے نا اہلیت کی دفعہ کی طرف آتا ہوں اس میں کہا گیا ہے کہ جب پارٹی قومی انتخابات میں دو فیصد سے کم یا درشتوں سے کم حاصل کرے گی اسے آئندہ انتخابات کے لئے نا اہل قرار دیا جائے گا میرے خیال میں یہ دفعہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ سیاسی سرگرمیوں میں جتنا قانون کا کم استعمال کیا جائے اتنا بہتر رہے گا۔ پھر میں اپنے عوام پر بھی اعتماد کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیشہ صحیح فیصلہ کیا ہے جس کی مثال آج ہمارے سامنے ہے۔ باوجود اس کے کہ ان کو کہا گیا کہ آپ بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ان الیکشنوں میں حصہ لیا اور ہمیں یہاں بھیجا۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں کہ کونسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے یا کونسی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک پارٹی انتخاب میں بہت نیچے آجائے اور جس کی مثال ہمارے سامنے ہے کیونکہ بھارت میں ایسا ہوا ہے۔ ایک پارٹی جو کہ بہت مقبول تھی اس کو الیکشن میں ایسی شکست ملی کہ اس کی لیڈر بھی ہار گئی لیکن پھر دوسرے انتخاب میں اسے میبارٹ سے منتخب کیا گیا اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہرن ایک انتخاب سے فیصلہ کرنا کہ وہ ختم ہو جائے۔ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے۔

جناب والا! ابھی ایک اور چیز کراٹنگ آف دی نلور رکھی ہے اور اس کی سیکشن بی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ممبر اپنی پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق اپنا ووٹ دینے سے اجتناب کرے گا تو اس کی بھی ممبر شپ ختم کی جاسکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا سمجھا ہو تو جو کوئی پارٹی اپنے مندر سے انحراف کرے پھر اس ممبر کے لئے کم از کم اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ وہ اگر اس کی مخالفت نہیں کرتا تو اجتناب کرے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ حق نہیں چھیننا چاہیے۔

[Mr. Asghar Ali Shah]

جناب والا! آخر میں میں آپکے توسط سے جناب وزیر اعظم کو ان کے ہمراہ اگست والے اعلان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس نیک مقصد میں کامیاب کرے! شکریہ۔

جناب چیئرمین! شکریہ۔ میری بخش زہری لیڈر آف دی ہاؤس

میر علی بخش زہری! عزت مآب جناب چیئرمین صاحب! جناب! انے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا یہ اچھا موقع ہے کیونکہ تازہ دم انسان کو کشش کرتا ہے کہ بہتر انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرے۔

Mr. Hasan A. Shaikh: Point of Order, Sir. You called him as Leader of the House Sir. He cannot give his personal opinion. He has to give his opinion as Leader of the House.

Mr. Chairman: Acting Leader of the House is the correct word. Please go ahead.

میر علی بخش زہری! اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں کمیٹی کا ممبر اور سینیٹر بھی ہوں لیڈر آف دی ہاؤس کی طرف سے کہتا لیکن کل انہوں نے یقیناً wind up کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تاحکم سمجھیں یا سینٹ یا ممبر کمیٹی سمجھیں میں اس انداز میں عرض کر رہا ہوں۔

یہی اپنی سٹیٹس برادری سے کہوں گا کہ وہ ذرا صبر و تحمل سے کام لیں میں ابتداء اس چھوٹے سے شخص سے کہتا ہوں۔ آپ جس کے قریب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں ظلم ہر کجوائف نہیں کرتے انکے دل بڑے عجیب ہوتے ہیں۔

جناب! میں چاہتا ہوں کہ سینٹ کی خصوصی کمیٹی جہاں میں ممبر تھا پر اظہار رائے کروں اس سے پیشتر کوئی ہمارا معزز ممبر جو کمیٹی میں تھا کوئی اصرار کرے تو میں یقین دلاتا ہوں اور میں یہ الفاظ صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہاؤس اور آپ کی اطلاعات کے لئے کہ میں اس پر اصرار نہیں کروں گا کہ اس پر بحث کی جائے۔ جو میں پوائنٹ اب کہتا ہوں۔ میں اصرار نہیں کروں گا جیسا کہ آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جناب! اپنے اختلافی نوٹ اپنی میٹنگز میں کہہ دیا تھا اس میں نے اختلافی نوٹ ۱۵۔ تاریخ تک لکھا گیا جب ہم نے وزیر اعظم صاحب جو لیڈر آف دی ہاؤس

تھے سے ملاقات کی میں نے لندن میں بھائی کی بیماری کے سلسلے میں جانے کی اجازت لی چٹھین صاحبہ کے ممبران اور میں نے خصوصاً اسی پوائنٹ پر کہ جو پرانی رجسٹر شدہ پارٹیز ہیں وہ انہ خود بحال ہو جائیں اس سے اختلاف کیا ہے مگر مجھے افسوس ہے کہ میری عزیز موجودگی میں منٹس میں ہوتے ہوئے بھی وہ اس رپورٹ میں درج نہیں کیا گیا جبکہ ہمارے ایک ممبر کے اختلافی نوٹ کو درج کر دیا گیا معلوم نہیں کیوں! بہر حال جو بھی technicalities ہوں میں جانتے پر اصرار نہیں کروں گا۔

میں ان دستوں سے متفق ہوں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جب ہمارے ہاں ایک نیا آئین اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بنتا ہے اور ہماری اپنی رپورٹ میں کئی سال کا کئی دفعات کا بلکہ انڈیا کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ اب کے حالات اور وقت کے حالات میں بڑا فرق ہے اس رپورٹ میں ہم نے خود درج کیا۔ خود فیصلہ کیا ہے جو موجود ہے اتفاق کر کے

revival of political

فیصلہ کیا ہے کہ ہم سے ۱۹۸۵ء کا

قانونی - تو کوئی وجہ پیدا نہیں ہوتی کہ ہم خود لکھیں parties Act.

اور پھر ایک پارٹی رجسٹریشن سے متراہم اور وہ پارٹی ان خود بحال ہو جائے اور دوسرے وہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کریں اس کی نقائص پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اپنی جگہ ہے میں دیکھتا ہوں مگر تازن ساز ادارے کا ممبروں اور رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ بعد میں بہت پیچیدہ مسائل اس میں پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ ایک آدمی کو بغیر معاہدے کے ہم کام دیں رجسٹرڈ کا کوئی پروف نہ ہو عدالت بھی کہتی ہے اور بعد میں وہ کہے کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے یہ پھر لٹ کر ٹ اور سپریم کورٹ تک جاسکتا ہے باوجودیکہ ہم یہاں لکھیں کہ وہ اس کا پابند ہے لیکن جب تک وہ لکھ نہیں دیتا کہ وہ اس کا پابند نہیں ہے ہم اپنی طرف سے یہ حکم دیں کہ تم رجسٹریشن سے متراہم تو وہ نئے ایکٹ اور نوٹز کا پابند نہ ہو گا میرے نقطہ نظر سے تازن اختلاف پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے میری یہ تجویز ہے کہ تمام جماعتوں کو ان دلائل کو منظور کرنا چاہیے کہ از سر نو جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اپنے آپ کو اس قاعدے کے مطابق جو بنے گا رجسٹرڈ کر

[Mir Nabi Bakhsh Zehri]

لیں تاکہ وہ ہر چیز کا پابند ہو جائیں اور کسی کو اس ہاؤس پر یا حکومت پر یہ اعتراض نہ ہو کہ انہوں نے جانبداری سے کام لیا ہے ہمارا مقصد غیر جانبداری ہے۔ ہم ملک کے لئے تازن بناتے ہیں۔ ہم چند پارٹسوں کے لئے یا ایک کے لئے تازن بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور قومی اسمبلی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہر حال چونکہ میں کمیٹی کا ممبر ہوں میں کمیٹی یا اس کے ممبر یا رکن کو مبارکباد دینے میں حق بجانب ہوں جو کچھ ہماری محنت کا appreciation مل رہا ہے وہ بڑی بات ہے۔ اب اقلیتوں کے متعلق جنکا یہاں ذکر آیا ہے۔ یقیناً ہمارے آئین میں اقلیتوں کا تحفظ ہے ہمارے ایک معزز ممبر نے Flag تک کا حوالہ دیا یہ ان کے حقوق تک کا تحفظ ہے۔

اسی طرح ہمارے ایک معزز ممبر نے فنڈز کے متعلق کہا کہ "فلاں جماعت کا کتنا فنڈ ہے کتنے اخراجات ہیں اور کتنی آمدنی ہے آمدنی اور اخراجات کی بات بڑی آسان ہے۔ اگر اس میں پوری طرح تازن کو سامنے رکھا جائے تو وہ فنڈ باہر سے کسی کو ملے یا اندر سے کسی کو دیا جائے اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس نے دیا ہے اور یہ بھی معلوم ہو سکتا کہ ان کے اخراجات کیا ہیں آج بھی کئی جماعتیں ہیں جو ملک بھر میں اپنے دفاتر رکھتی ہیں اور میں واقعی اس بات سے متفق ہوں کہ وہ Pay بھی دیتی ہیں اور جیسے ملازمین کی set-up ہوتی ہے وہ ان کو payments

کرتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے لاتے ہیں اور وہ نہ خود کاروبار کرتے ہیں نہ کوئی صنعتکار ہیں جہاں سے وہ کسی طریقہ سے پیسے لائیں اور نہ ہی وہ بڑے زمیندار ہیں۔ آخر یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ اس لئے اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے اور اگر ملک کے لوگ دینے والے ہیں تو ان کا بھی نام لکھا جانا چاہیے اور اگر باہر سے آئے تو ان کا بھی نام اور ملک کا نام لکھا جانا چاہیے تاکہ وہ اس قانون کی زد میں آجائے جو اس رپورٹ میں موجود ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔

اگر کوئی ممبر float cross کرے تو میرے خیال میں یہ صحیح بات

نہیں ہے سیاست میں یہ معیار نہیں ہے کیونکہ سیاسی اتحاد بڑا ہے وہ ایک اخلاقی پابندی ہے۔ ہماری سیاست ایسی ہو جیسا کہ میں ہوں میں ایک جماعت کا سربراہ ہوں

اس میں کوئی تحریر نہیں اس میں کسی مجسٹریٹ کے دستخط نہیں ہیں، کوٹ بھی ہیں چھوڑ سکتا ہے اور دوسری جماعت میں جا سکتا ہے مگر جب کوٹا اس جماعت کے ٹکٹ پر منتخب ہوگا اور درست بھی ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے اگر وہ چھوڑنا چاہے تو وہ سیٹ چھوڑ کر دوبارہ الیکشن لڑے۔ میں اس کا بھی تعریف کرتا ہوں کہ ایک معزز ممبر نے کہا جو شاہد ہماری کمیٹی کا ممبر نہ تھا، اگر ایک جماعت اپنے منشور میں تبدیلی لائے تو یا منشور کے برعکس کام کرے تو اس رپورٹ میں اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی اور کوٹا جماعت منشور کے خلاف کام نہیں کر سکتی اور اس کو نہیں کرنا چاہیے چونکہ منشور تو ایک کتاب عمل ہے اور وہی مبر جانتا ہے جو اس کا ممبر ہے اگر وہ اس سے افسان کرتا ہے اگر وہ بنیادی طور پر اس منشور کے خلاف ہے تو اس ممبر کو سزا نہیں ملنی چاہیے اور میں پھر کہتا ہوں کہ اس پر کریمینل سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو دو سال کی سزا ملے کسی کو چار سال کی سزا دی جائے سیاسی معاملات میں یہ نہیں ہوتا کئی لوگ دس دس سال جیل میں رہتے ہیں مگر یہ ان کی سیاسی تہمتی مگر اس کے باوجود ان کے سیاسی کیریئر پر کوئی فرق نہیں آیا اور اس کو الیکشن سے ممنوع قرار نہیں دیا گیا کسی ملک میں ایسا نہیں ہے بلکہ اس حد تک ہے کہ ایک آدمی جو کریمینل ہو اور سزائے قانون میں موجود ہے کہ اگر کسی کو اتنی سزا ہو تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا اسلئے سیاسی آدمی پر یہ پابندی نہیں ہونا چاہئے۔

جہاں تک عدلیہ کا سوال ہے ایک ممبر نے فرمایا کسی کمیشن کا نام لیا الیکشن کمیشن کے علاوہ جیسا کہ آپ کے سامنے تجویز آتا ہے میرے خیال میں اگر ہم آئندہ جمہوریت کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کیونکہ سیاسی پارٹیوں اور حکومت کے درمیان ہمیشہ تنازعہ ہوتا رہتا ہے اور حکومت کے ہاتھ میں کئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر ملک میں حکومت ایسا کرتی رہتی ہے صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے ویسے یہاں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض دوسرے ملکوں میں بڑے کام ہمہ سکتے ہیں چاہے اسکی آبادی کتنی ہی زیادہ ہو وہاں بھی قانون کو یکسر بدل دیتے ہیں ۱۹۷۳ء کے آئین میں پانچ ترامیم ہوئیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں چونکہ ۱۹۷۳ء کے آئین کو آج آپ لوگ اور عوام مانگتے ہیں لیکن وہ اسی حال میں تو نہیں۔ اسی حال میں کیسے رہے۔

[Mir Nabi Bakhsh Zehri]

ہمارا سینٹ اس وقت بے حال ہے اس کو اختیارات نہیں ہیں۔ جہاں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بجٹ پر بات نہیں کر سکتے ہمارے سامنے بجٹ نہیں آ رہا۔ صوبوں کی برابر ہی کا کیا نمونہ ہے صرف باتیں کریں اور ہماری بات نہیں چلتی کیونکہ جو بھی وزیر اعظم بنے ان کا جناب ووٹ نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے جو آج کے آئین میں ہے اسی آئین کو بنیاد رکھ کر پانچ basic - ترمیم ہو گئیں۔ اسی طرح یہ دیکھنا چاہیے جب فیڈریشن ہے اور لفظ فیڈریشن کو رکھتے ہو، تو وہاں سارے صوبوں کی نمائندگی سینٹ کرتا ہے تو اس کا تحفظ سینٹ اور اس علاقے کے لوگ کرتے ہیں ہمارا کوئی ذاتی حلقہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس نہر کی موری کو بڑھا دو اور ہمارا وہ status نہیں ہے کہ یہاں سڑک بنادو اور ہماری یہ ڈیمانڈ نہیں کہ آپ گلی کوچوں میں سڑکیں زیادہ ڈالیں گے ہمارا فرض ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ممبران ہیں ہر صوبے کے حقوق کا تحفظ کریں اور ملک کی سلامتی کی ذمہ داری اس ہاؤس پر ہے جو کہ فیڈریشن کا ہے جسکو اپر ہاؤس کہتے ہیں تھانہ ہاؤس کہتے ہیں۔ وہ یہ ہاؤس ہے خدا نخواستہ سینٹ نہ ہو تو نیشنل اسمبلی کی قانونی پوزیشن کیا ہے۔ اس فیڈریشن کی پوزیشن کیا بنتی ہے۔

آپ نے اس ہاؤس کو جو عزت دی ہے وہ بیلٹے نام کی جاسکتی ہے ٹھیک ہے کہ ہم پروڈرول میں سب سے آگے ہیں جس طرح دوسرے ملکوں کے ممبران سینٹ کو اختیارات ہیں اسی طرح کے اختیارات ہمیں نہیں ہیں۔ یہی جناب کا اعلان کے لئے عرض کرتا ہوں جیسا کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ امریکہ کے سینٹ کو ہارڈ ویو پاور حاصل ہیں ہم ویٹو پاورز کی ڈیمانڈ کی تجویز نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی حالت کے مطابق چلیں۔

میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہماری خصوصی کمیٹی کا رپورٹ میں دوسرے ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ یہ موقع ہے اور میں بتا دوں کہ جناب چیئرمین ہماری سینٹ کا جو برداری ہے اس کو باعزت اور باوقار بنائیں اسکو ہاؤس آف لارڈز کی طرز پر بنایا گیا ہے اور جس کا ۱۹۷۳ء کے آئین میں بھی چرچا ہے۔ ہاؤس آف لارڈز نامزد ہے ان کا کوئی اختیار نہیں ہے وہاں وہ بات کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہاں ہاؤس آف کامنز کام کرتا ہے یورگے میں صوبے نہیں ہیں۔

یہاں صوبے ہیں وہاں فیڈریشن کا نام نہیں ہے یہاں فیڈریشن ہے ہم چار بھائیوں کو ایک طاقت ہیں۔ وہاں ایک Kingdom ہے ایک بادشاہت ہے۔ انہوں نے اپنی سداہت کو قائم رکھنے کے لئے ہاؤس آف لارڈز نامزد کر رکھا ہے یہاں پیم الیکشن سے آنے ہیں یہاں ہماری صوبائی اسمبلیاں ہیں صوبائی اسمبلیوں کے بعد ہم فیڈریشن میں آتے ہیں اگر فیڈریشن کا کوئی اختیار نہیں ہے تو لوگ کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ جنہیں آج ہم اس ایوان میں سن رہے ہیں پچھلے دنوں آزاد بلوچستان کی بات ہوئی کنفیڈریشن کی بات ہو رہی ہے یہ بات اس ایوان میں ہوئی ہے میں جناب کی رسالت سے سربراہ مملکت اور جو ممبران یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو مستحکم بالذات اختیارات دے دیں تو کسی کو کنفیڈریشن کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی آزاد بلوچستان کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور ہم متحد ہوں گے ہم مستحکم ہوں گے ہم اس ہاؤس سے رجوع کریں گے جس میں ہم آئے ہیں جناب بی میری تجویز ہے۔

اس طرح سے جناب میں چاہتا ہوں کہ اب میں مارشل لا کی طرف آؤں۔ جہاں تک مارشل لا کا تعلق ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ جیسا کہ ہم نے اپنے لیڈر پر اعتماد کیا اور انہوں نے مارشل لا اٹھانے کا اعلان کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ہم مارشل لا کو جلد سے جلد اٹھائیں اور اس کو واپس خوشی سے ایسے طریقے سے اور ایسے معقول طریقے سے واپس بھیجیں کہ ہماری فوج عزت کے ساتھ واپس بیرکوں میں جائے اور اپنی ذمہ داری پوری کرے تو زیادہ بہتر ہے میں متفق ہوں کہ جتنا جلدی ہو ہم اس کو واپس بھیج دیں۔

میں بتاؤں کہ ہمارا سوسے کا آئین suspend تھا اور کچھ دفعات change کر کے اب ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے صدر مقرر نے خود کو باقاعدہ پیش کیا انہوں نے اپنے آپ کو منتخب کرایا۔ میں انہی تقریف نہیں کہہ رہا مگر یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے رلیف نڈم کرایا اور پھر الیکشن میں ہم منتخب ہو کر آئے ہیں جس طرح بھی ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے مگر منتخب ہو کر تو آئے ہیں تو جو اصول اور قانون موجود تھا اسی کے مطابق آئے ہیں جس انداز سے ہمارا

[Mir Nabi Bakhsh Zehri]

حلقہ تھا اس کے مطابق ہم آئے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ میں کمروں لگے یہ یاد نہیں کرتا کہ مرحوم غلام محمد نے یہ ۱۹۵۵ میں آئین کو پھینک کر خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا قانون کو ختم کیا اس کا کیسی سپریم کورٹ تک چلا جو کورٹ کے الفاظ ہیں میں وہ دہلانا نہیں چاہتا شاید وہ صحیح نہ ہوں، اور یہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن وہ وقت کی ضرورت کے تحت بات ہوگئی کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے تو سابق قانون پھینک دیا یہ نہیں کہا کہ یہ معطل ہے یہ نہیں کہا کہ اس کی کوئی شق بدل دو۔ ہمارے ملک میں ایسا ہوتا گیا۔

اس کے بعد ۱۹۵۶ء کا آئین ختم ہوا اس کے بعد سات اکتوبر ۱۹۵۸ء میں مارشل لا لگا۔ سکندر مرزا سے نیلڈ مارشل ایئر ب خان نے ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء کو take over کیا اور مکمل مارشل لا لگ گیا۔ سات اکتوبر کو مارشل لا لگا مگر ۲۷ اکتوبر کو سکندر مرزا سے اختیارات لے کر اس کو ہاٹے ہاں کوٹھ پین مہجان خانے میں رات کو لائے اس کے بعد ۱۹۶۱ء فیسلڈ مارشل نے اپنا بنا یا ہوا آئین ہمیں دے دیا جبکہ ۱۹۶۲ء میں انتخابات ہو گئے ۱۹۶۲ء میں اور پھر ۱۹۶۵ء میں انتخابات ہو گئے میں ایم این اے بنا ہم لوگ جو ایم این اے تھے ہمارا ایک ایک مہینہ نہ رہ گیا تھا کہ جناب بیکٹی خان جو جنرل تھا انہوں take over کیا۔ نیلڈ مارشل اپنے گھر میں مستحکم طریقے سے ہا۔ خدا ان کو جنت نصیب کرے ان کا موت کے بعد ان کی لاش ان کے گھر سے نکلی۔ بیکٹی خان جو جنرل صاحب تھے اور پرنسپل صاحب تھے انہوں نے اپنا قانون دے دیا اور پندرہ مہینے کے اندر ایکٹیف کرنے کا فیصلہ کیا وہ ایکشن بھی ہو گئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارا ملک بدستھی سے دو حصوں میں بٹ گیا اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ کیسے ہوا بلکہ میں کتابوں لکھوں گا جو میں جانتا ہوں وہ بڑی سازش کے تحت ہوا اور ہمارے چند ایک بڑے لوگ اس کے ساتھ تھے آج اس ہاؤس میں میں کہہ نہیں سکتا میں اس کو محفوظ رکھوں گا کیونکہ وہ میرے لئے valuable ہے۔

جناب والا۔ اب میں اس بات پر آتا ہوں کہ جنرل ضیاء صاحب نے

[Mir Nabi Bakhsh Zehri]

اللہ تعالیٰ ان کی عمر وراز کرے جو جرنیل جانا نہیں چاہتے مگر خاموش ہیں۔ ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ ہم صدر کے لئے دعا کریں کہ جنہوں نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا ہے اس لئے کہ یہاں پبلک کا پریشر ہے یہاں تین طاقتیں ہیں جو جسے پبلک ہے، ایڈمنسٹریشن ہے سپریم طاقت کی یہاں حکومت رتبہ ہے۔ مگر بنیادی طور پر طاقت ایڈمنسٹریشن کی ہے چاہے ماشل لاء آئے وہ بھی جاتا ہے۔ چاہے جمہوری وزارت آئے وہ بھی چل جاتی ہے مگر خدا ان لوگوں کی نیکو کرے۔ جو ماضی میں جتنے بڑے عہدوں پر رہے ہیں ان کا حال generally

ہمارے دیکھنے میں نہیں آیا اب ہم دعا کریں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ان بڑے عہدیداروں کو جو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں، باجو ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے جو ہم past میں دیکھ چکے ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں خراب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : جزاک اللہ!

The House is adjourned for prayer for 20 minutes

اجلاس ۲۰ - ۷ پر دوبارہ منعقد ہوگا۔

THE HOUSE ADJOURNED FOR MAGHRAB PRAYER

[The House re-assembled after Maghrab Prayer. Mr. Chairman (Mr. Ghulam Ishaq Khan) in the Chair.]

جناب چیئرمین۔ جناب سرتاج عزیز صاحب!

جناب سرتاج عزیز : بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیئرمین! وقت

کا کچھ ہے اس لئے میں مختصراً چند تعارفی لیکن بنیادی نکتے پیش کروں گا اور اس کے بعد کمیٹی کی چند تجاویز پر اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔

سب سے پہلے خوش آمد بات تزیہ ہے کہ اسمبلی کی کمیٹی اور سینیٹ کی کمیٹی کی دونوں متفقہ رپورٹیں ہیں۔ اور دونوں میں جو اصولی سفارشات کے لئے پیش کئے گئے ہیں وہ مجموعی طور پر بڑے منفیانہ اور مثبت ہیں جن کے تحت کسی پارٹی پر پابندی نہیں ہوگی اور تمام پارٹیاں کریہ اجازت ہوگی کہ وہ قواعد کے مطابق اپنا

کام کر سکیں سیاسی پارٹیوں کی بجالی کمیٹی یہ بہت اہم اور اچھا قدم ہے۔ لیکن ساتھ
ہم دوزن کمیٹیوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ چند قواعد و ضوابط کی ضرورت ہے۔ جن کے
تحت یہ پارٹیاں کام کر سکیں گی اس لئے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان
قواعد و ضوابط کو اس طریقے سے مرتب کیا جائے کہ ان سے ان منصفانہ اور آزادانہ اصولوں کی
حفاظت ہو سکے تاکہ آئندہ کوئی بھی حکومت ان قواعد کا سہارا لے کر سیاسی پارٹیوں کے قیام
کے اصولوں کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔

دوسرا بنیادی نکتہ جو ہمیں سامنے رکھنا چاہیئے وہ یہ ہے کہ یہ قانون ہم ایک تو عبوری
دور کے لئے بنا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی مستقبل کے لئے بھی عبوری دور جو اس وقت سے لے
کر اگلے الیکشن تک ہو گا کہ مارشل لا دہٹانے کے بعد جو سیاسی نظام بنے اس میں استحکام پیدا
ہو، لیکن ساتھ ہی آئندہ بلکہ کئی الیکشن کی ضروریات کو مدنظر رکھنا ہو گا۔ اس لئے ان دوزن
ضرورتوں کو یکجا کرنا اور ان میں توازن قائم کرنا ایک دوسرا تقاضا ہے جو ہمیں سامنے رکھنا پڑے
گا۔

جناب چیرمین! تیسرا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ سیاسی عمل کا انحصار صرف تو این پر نہیں ہوتا
بلکہ ان روایات پر بھی ہوتا ہے۔ جو جمہوریت کو قائم کرنے کے لئے دماغ کی جائیں جن حمالک
میں روایات مضبوط ہوں وہاں تو این کی ضرورت نہیں ہوتی بڑا یہ جیسے ملک میں لکھے
ہوئے آئین تک کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن جہاں روایات مضبوط نہ ہوں وہاں
قانون چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جمہوری عمل صحیح طور پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ
دوزن منتخب پارلیمنٹ کے ایوانوں کا فریضہ ہے کہ ملک میں جمہوری روایات کو قائم
کرنے اور ان کی حفاظت کرنے میں پوری کوشش کریں۔ اگر اس ملک کی ۳۸ سالہ تاریخ
دیکھی جائے تو اس کا سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم بلو قوم کے آزادی کے دوزن
بنیادی تقاضے پورے نہیں کر سکے۔ پہلا تقاضا تو ملک کی سالمیت اور اس کی نظریاتی بنیادوں
کی حفاظت ہے اگر ہم اس تقاضے کو پورا کرتے تو آدھا ملک ۱۹۷۱ء میں ہم سے الگ
نہ ہوتا۔ اب بھی بقیہ ملک کی سالمیت کو بہت سے خطرے ہیں۔

دوسرا بنیادی تقاضا ایک ایسے سیاسی نظام کی تشکیل ہے جس کے تحت جب بھی
حکومت میں تبدیلی کی ضرورت ہو۔ وہ منظم طریقے سے اور سیاسی عمل کے ذریعے سے ہو

[Mr. Sartaj Aziz]

یہی وجہ ہے کہ ۲۸ سال کا بیشتر حصہ قوم نے مارشل لا کے سائے میں گزارا خدا کا بہت شکر ہے کہ اب ایک دفعہ پھر سیاسی عمل شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے کیونکہ انتخابات کے بعد منتخب سول حکومتیں مرکزی اور صوبائی سطح پر اقتدار سنبھال چکی ہیں۔ دوسرا مرحلہ سیاسی پارٹیوں کی بجالی ہے جس پر دونوں ایوان اس وقت بحث کر رہے ہیں جب یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا تو انشاء اللہ تیسرا مرحلہ یعنی مارشل لا کا اتمام بھی پانچ تین تک پہنچ سکے گا۔ جیسا کہ وزیر اعظم نے اعلان کیلئے کہ انشاء اللہ اس سال کے آخر تک مارشل لا رہٹ جائے گا اور جمہوریت کا یہ پودا چڑھیں پکڑنا شروع کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ پودا درخت بن کر پھلے پھولے گیا یا نہیں؟ اس کا انحصار ان قوانین پر ہو گا جو پارلیمنٹ سیاسی عمل کی بجالی کے لئے بنائے گی اور ان روایتوں پر ہو گا۔ جن کے ذریعے ہم اب ان قوانین پر عمل کریں گے۔

جناب والا ان قوانین کو بناتے وقت اس تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا میسر خیال میں بہت ضرور ہے۔ اب میں ان نکات پر آتا ہوں جو سینٹ کی خدمت میں کیٹی نے ہمارے سامنے پیش کئے مجموعی طور پر کمیٹی کی رپورٹ بہت اچھی ہے اور مجھے زیادہ تر سفارشات کی تائید کرنے میں کوئی تامل نہیں۔ صرف دو یا تین نکات ہیں جن سے مجھے قدرے اختلاف ہے۔ سب سے پہلے ان سیاسی پارٹیوں کی بجالی کا سوال ہے جن کی رجسٹریشن ۱۹۷۹ء کے مارشل لا آرڈر سے پہلے ہو چکی تھی اس سلسلے میں سینٹ کمیٹی کی تجویز یہ ہے کہ نیا قانون نافذ ہوتے ہی وہ پارٹیاں خود بخود بحال تصور کی جائیں ان کو دوبارہ رجسٹریشن کی ضرورت نہ ہو۔ میسر خیال میں قانون میں بہت سی تبدیلیاں آرہی ہیں اور حالات میں بھی تبدیلی آچکی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی پارٹیاں جو پہلے رجسٹرڈ تھیں ان میں بے شمار حرف کاغذی طور پر رجسٹرڈ تھیں حقیقتاً ان کا وجود اس وقت نہیں ہے اسی لئے بہتر یہ ہو گا کہ تمام پارٹیوں کا از سر نو تشکیل اور رجسٹریشن کی شرط قانون میں موجود ہو۔ اگر رجسٹریشن کا طریقہ اور لائحہ عمل اتنا ہی آسان ہو جتنا ان ریپورٹوں میں تجویز کیا گیا ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ قانون پاس ہونے کے فوراً بعد وہ تمام پارٹیاں خود دوبارہ رجسٹرڈ ہونا چاہتی ہیں۔ جلد از جلد اپنا کام شروع کر سکیں۔

دوسری تجویز پارٹیوں کی تینجھ کے متعلق ہے اس سلسلے میں تین نکات ہیں جن پر میں رائے پیش کر دوں گا سب سے پہلے یہ مسئلہ ہے کہ آیا تینجھ کا اختیار حکومت کو ہو اور اس کے بعد وہ ۵ دن کے اندر سپریم کورٹ میں جائے یا جموری اختیارات بھی سپریم کورٹ کے پاس ہوں اس سلسلے میں آئین کی دفعہ ۷۱ کے تحت حکومت declare کر سکتی ہے کہ یہ پارٹی قومی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ لیکن اب کھٹی کی رپورٹ کے پیرا ۱۲ (۳) میں یہ سفارش بھی ہے کہ اس ڈیکلریشن کے ساتھ وہ پارٹی کو معطل کر کے ان کے فنڈز کو freeze کر سکتی ہے۔ یہ آئین سے فوری طور پر اخذ نہیں کیا جاسکتا اور اس سلسلے میں جو گذشتہ مختلف حکومتوں کا ہمارا تجربہ ہے۔ اس کو پیش نظر رکھ کر تو interim injunction کی تجویز ہے وہ میرے خیال میں مناسب ہے کہ حکومت ڈیکلرے تو کرے لیکن اگر وہ فنڈز وغیرہ freeze کرنا چاہے اور final judgement تک پارٹی کو معطل کرنا چاہے تو سپریم کورٹ سے interim injunction لے۔ اس طرح سے اس قانون کو غلط استعمال کرنے کے امکانات کم ہوں گے اور پارٹیوں میں اعتماد پیدا ہوگا۔ اگر وہ اسباب جس کے تحت حکومت کی پارٹی کے متعلق declare کیا ہے کہ آئین کی دفعہ ۷۱ کے تحت کہ یہ ملک کو سالمیت کے خلاف ہے وہ قابل جواز ہیں۔ تو سپریم کورٹ interim injunction دے دے گی۔

اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ ان اصولوں کی تشریح ہے۔ جن کے تحت کسی پارٹی کو منسوخ کیا جاسکتا ہے۔ آئین کی دفعہ ۷۱ میں یہ بھی درج ہے کہ تمام شہریوں کو پولیٹیکل پارٹی بنانے کا حق ہے۔ ان restrictions کے تحت جو قانون میں ملک کی سالمیت امن وامان اور اختلافات کے تحفظ کے لئے عائد کی جائیں۔ اس سلسلے میں میری یہ تجویز ہے کہ جو ہمارا قانون بنے اس میں وہ تمام اقدامات جو اس قانون کے دائرے میں آتے ہیں۔ یعنی وہ کیسی کسی سرگرمیاں ہوں گی جن کے تحت ایک پارٹی کو منسوخ کیا جاسکتا ہے ان کی کسی حد تک تشریح definition میں ہونی چاہیے تاکہ سپریم کورٹ کو guidance مل سکے کہ کس قسم کی سرگرمیاں ہیں جس کے تحت یہ سخت اقدام کیا جاسکتا ہے۔ اس سے بھی پارٹیوں کے نظام میں کسی حد

[Mr. Sartaj Aziz]

تک استحکام پیدا ہوگا۔ ایک اور نکتہ اس میں منسوخ شدہ پارٹیوں کے عہدیداروں کے متعلق ہے۔ جس پر دو ذمہ داریوں کی رپورٹوں میں قدرے اختلاف ہے۔ اسمبلی کی کمیٹی کی سفارش ہے کہ جو پارٹی منسوخ کی جائے۔ اس کے عہدیدار پانچ سال تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اگر حصہ لینا کے توفیق کو تین سال قید یا جرمانہ یا دو ذمہ داریوں سے روکا جاسکتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں سینٹ کمیٹی کی تجویز زیادہ فراخ دلانہ یعنی لبرل ہے۔ اگر ایسے عہدیدار صرف اعلان کر دیں اور الیکشن کمشنر کو اطلاع دے دیں کہ انہوں نے اس پارٹی سے قطعاً تعلق کر لیا ہے تو وہ تین مہینے کے اندر اندر کسی اور پارٹی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور سیاسی activities بھی جاری رکھ سکتے ہیں میرے خیال میں مختلف حالات میں دو ذمہ داریوں کی پابندیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے کیونکہ بعض ایسے حالات ہو سکتے ہیں یعنی منسوخ کی وجوہات اتنی سنگین ہو سکتی ہیں کہ ان پارٹیوں کے عہدیداروں پر پانچ سال کی پابندی لگانا بالکل جائز عمل ہوگا۔ لیکن ممکن ہے بعض حالات میں پارٹی تو منسوخ ہوگئی لیکن تمام عہدیداروں کا ایسا قصور نہ ہو کہ ان پر پانچ سال تک پابندی لگائی جائے۔ اس لئے میری تجویز یہ ہے کہ قانون میں دو ذمہ داریوں کی گنجائش رکھی جائے۔ جو پارٹی منسوخ ہو ان کے عہدیداروں کو تین مہینے سے لے کر پانچ سال تک الیکشن نہ لڑنے کی پابندی لگ سکتی ہے اور سپریم کورٹ جب اس مسئلہ پر غور کرے وہ اس وقت یہ فیصلہ بھی کرے کہ کن کن عہدیداروں پر کون کون سی پابندی لگ سکتی ہے اس وقت جو بھی حالات ہونگے یا جو بھی ان کے خلاف چارجز ہوں گے۔ ان کو مد نظر رکھ کر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے تو اس طرح دو ذمہ داریوں کی گنجائش ہوگی جس کا خیال میں اس سلسلے میں سزا کی شرط بہت سخت ہے سیاسی عمل میں پابندی لگانا کافی ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی عمل تو ہر قسم کا ہے۔ اگر کسی منسوخ شدہ پارٹی کا لیڈر کبھی کوئی جلسہ جا کر سن لے اور اسکو گرفتار کیا جائے کہ آپ کو تین سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ آپ نے سیاسی عمل میں حصہ لیا تو اس طرح کے قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے میرے خیال میں جب تک واقعی کوئی قانون نہیں ہے جو جس کے لئے الگ قوانین موجود ہیں وہ سزا کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

اس کے علاوہ دو اور مسائل ہیں۔ جن کے متعلق دونوں کمیٹیوں کی سفارشات میں قدرے اختلاف ہے پہلا تو یہ ہے جو پارٹی کم از کم دو فیصد ووٹ نہ لے وہ آئندہ انتخابات میں حصہ ہتس لے سکتی۔ یہ سینٹ کمیٹی کی سفارش ہے۔ اسمبلی کمیٹی کی سفارش ہے کہ اُس پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ کی جائے۔ اس کے علاوہ سینٹ کی کمیٹی نے نہ صرف دو فیصد ووٹ کی شرط تجویز کی ہے بلکہ دو سیٹوں کا بھی ذکر کیا ہے جو میسر خیال میں زیادہ مناسب ہے اس سلسلے میں اسمبلی کمیٹی کی رپورٹ میں ایک اختلافی نوٹ ہے۔ اس میں ایک تجویز یہ ہے کہ دو فیصد ووٹ تمام ملک میں حاصل کرے اور ہر صوبے میں بھی اُدھا فیصد ووٹ ہر ذرہ حاصل کرے مجموعی طور پر ان سفارشات کا مقصد بہت اہم ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ پارٹیوں کی تعداد پر پابندی لگائی جائے اس سے یہ طریقہ بہت مناسب ہے چونکہ جمہوری روایت کے مطابق ووٹ خود دینے کا حق ہے اور آہستہ آہستہ بہت سی سیاسی پارٹیاں میدان سے نکل جائیں گی اور الیکشن کے بعد صرف چند پارٹیاں میدان میں رہ جائیں گی دوسری افغانی تجویز کا مقصد بھی بہت مناسب ہے کہ صرف علاقائی پارٹیاں جو صرف اپنے علاقے میں کسی وجہ سے ہر ذریعہ ترقی حاصل کریں۔ وہ قومی سطح پر کام نہیں کر سکتیں اس لئے ایسی پارٹیاں وجود میں آنی چاہیں جن کی ہر صوبے میں support ہو تب ہی جا کر قومی سطح پر سیاسی پارٹیاں چل سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں میری ایک تجویز یہ ہے کہ چاروں صوبوں میں نصف فی صد ووٹ حاصل کرنے کی شرط شاید زیادہ سخت ہو اور اس سلسلے میں یہ ترمیم ہو سکتی ہے کہ دو فیصد ووٹ قومی سطح پر لے لیکن اُدھائی صد چار میں سے کم از کم تین صوبوں میں حاصل کرے اس سے یہ ہو گا پارٹی کی قومی حیثیت ظاہر ہو جائے گی پھر بھی اتنی سخت پابندی نہ ہوگی ورنہ ممکن ہے کہ بہت کم پارٹیاں اس شرط کو پورا کر سکیں ایک یا دو الیکشن کے بعد ان شرائط پر پھر غور کیا جاسکتا ہے۔

میرا آخری نکتہ وفاداری یا فلور کراننگ کے متعلق ہے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ کیونکہ ماضی میں ہمارے ملک میں جو عدم استحکام پیدا ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی اس مسئلے پر دونوں کمیٹیوں کی سفارشات میں کچھ فرق ہے اسمبلی

[Mr. Sartaj Aziz]

کی کمیٹی کی سفارشیں مگر کوئی نمبر ایک ووٹ بھی پارٹی کی ہدایات کے خلاف دے تو اس کی سیٹ جا سکتی ہے اور سینٹ کی کمیٹی کی سفارش ہے کہ اس کی سیٹ تب جائے گی۔ جب وہ لگاتار ایسا کرے اس سلسلے میں دو تین تجویزوں کا کچھ نہ کچھ جواز ہے چونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی ووٹ ایسا ہو مثلاً عدم اعتماد کا اس میں اگر کوئی نمبر پارٹی کے ہدایات کے خلاف ووٹ دیتا ہے۔ تو عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لئے دو تین تجویزوں کو اٹھا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یعنی کسی بڑے اہم ووٹ پر یا باقی معاملات میں لگاتار خلافت و ریزی کرنے پر یعنی کھوڑی بہت flexibility کی ضرورت ہے۔ تاکہ کوئی نمبر اپنے ضمیر یا مفاد کی خاطر ایک درم تہہ اگر پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ دیتا ہے۔ اور وہ مسئلہ بہت اہم نہیں ہے۔ تو اس کی سیٹ جانے کی نوبت نہیں آنی چاہئے لیکن اگر وہ مستقل یا بار بار ایسا کرے۔ تو پھر الگ بات ہے۔ مجموعی طور پر اس قانون کی ضرورت ہے۔ لیکن اتنا سخت نہ ہو کہ بیشتر ممبران اسے پورا نہ کر سکیں۔ آخر میں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دفا داری کی تبدیلی یا فلور کراسنگ کا جو مسئلہ ہے یہ اسی عبوری دور کے لئے بہت ضروری ہے چونکہ توقع یہ ہے کہ جب سیاسی پارٹیوں کی بجالی ہو جائے گی اور مارشل لا ختم ہو جائے گا تو موجودہ پارلیمنٹ کے ممبران جو اس وقت تو آزاد ممبران کی حیثیت سے ہیں۔ وہ وقت آنے پر مختلف پارلیمانی گروپ یا سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے اور یہ ڈسپلن قبول کریں گے تاکہ یہ ضمانت ہو کہ مارشل لا ختم ہو جانے کے بعد حکومت اور یہ منتخب ایوان عدم استحکام کا شکار نہ ہو۔ اور نہ ہی ایسی صورت حال پیدا ہو جس سے سیاسی عمل کو جاری رکھنے میں رکاوٹ پڑے یہاں پر دو تین طرف سے بہت دلیلیں دی گئی ہیں کہ ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ لیکن ساتھ ہی جمہوری تقاضوں کو بہت زیادہ موٹا نہ جائے۔ میسر خیال میں اس عبوری دور کے لئے یہ ڈسپلن ایوان کے ممبران کے ذاتی مفاد کے لحاظ سے نہیں بلکہ سیاسی عمل کو جاری رکھنے کے لحاظ سے بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس لئے ذاتی تقاضوں سے بہت اہم ہے اس لئے امید ہے ایوان اس مسئلہ پر ایسا قانون پیش کرے گا جس میں جمہوری تقاضوں کا بھی پاس ہو اور موجودہ عبوری دور کی ضروریات کا بھی۔ تاکہ آئندہ کے لئے بھی استحکام کی ضمانت ہو سکے اور سیاسی عمل کو ملک میں جاری رکھنے میں مدد ملے۔

آخر میں ایک سفارش اور ہے جس میں دونوں کمیٹیوں نے مختلف تجاویز پیش کی ہیں۔ سینٹ کمیٹی نے کہا کہ پورا قانون نیا بنایا جائے۔ بجائے اس کے کہ ۱۹۴۲ء کے اور قانون میں تبدیلیاں کی جائیں۔ اسمبلی کمیٹی نے مؤرخہ لڈز کے طریقہ تجویز کیا ہے۔ دونوں لائحہ عمل میں خوبیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں اور امید ہے کہ وزیر قانون صاحب دونوں پر غور کر کے فیصلہ کریں گے۔ آیادہ سینٹ کی کمیٹی کی تجویز منظور کرتے ہیں اور مکمل نیا قانون بناتے ہیں یا اسمبلی کمیٹی کی سفارش پر عمل کرتے ہیں کہ ۱۹۴۲ء کے قانون میں ترامیم کرنے کے بعد اسے دوبارہ نافذ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔

جناب چیرمین : جناب حمزوفان پلچورہ

جناب حمزوفان پلچورہ : بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیرمین صاحب! میں سب سے پہلے وزیر اعظم جناب محمد فاضل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ۱۳ اگست کو جو اعلان مارشل لا ختم کرنے کا کیا ہے۔ میں اس کے لئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں یہ منگنی تو ہو چکی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاد کی جلدی ہو جائے۔

جناب چیرمین : رخصتی جلدی ہو جائے۔

جناب حمزوفان پلچورہ : میں صدر صاحب سے وزیر اعظم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ مارشل لا ختم ہونے کے بعد اس ملک کے عوام کو کوئی صحت مندانہ جمہوریت دیں تاکہ آئندہ کوئی مارشل لا لگانے کی گنجائش نہ رہے۔ اس کے بعد سینٹ کمیٹی کے ممبر صاحبان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس پر بڑی محنت کی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ اور نسبتاً قومی اسمبلی کی رپورٹ سے لبرل ہے۔ میں تو قومی اسمبلی اور سینٹ کی رپورٹوں کے مطالعہ کے بعد یہ کہوں گا کہ ۱۹۷۳ء کا جو آئین آپ کو دیا گیا تھا وہ آئین تھا جس پر سب پارٹیاں متفق ہوئی تھیں اور تیس سالوں کے بعد ایسا ہوا تھا۔ تیس سال کے بعد وہ آئین ملک کو دیا گیا تھا جو عوام کی اُمتوں اور جذبات اور خواہشات کے مطابق تھا۔ اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ جو ۱۹۷۳ء کا آئین ہے اس کو بحال کیا جائے۔ اس میں ترامیم کا حق صرف منتخب نمائندوں اور عوامی نمائندوں کو ہونا چاہیے اور بلوقت ضرورت وہی ترامیم کر سکیں۔

[Mr. Hamza Khan Piljo]

جہاں تک سیاسی پارٹیوں کی رجسٹریشن کا تعلق ہے اس کے لئے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں مارشل لا رہا ہے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی رجسٹریشن ہو۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ جب تک مکمل جمہوریت قائم نہیں ہوتی اور بار بار الیکشن نہیں ہوتے تب تک سیاسی پارٹیوں پر رجسٹریشن کی پابندی نہیں ہونی چاہیے دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پارٹی کو جو dissolve کرنے کی سفارش کی گئی ہے کہ وہ حق فقط الیکشن کیشن کو ہونا چاہے میری گزارش یہ ہے کہ الیکشن کیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ماتحت رہتا ہے اس لئے میری تجویز ہے کہ یہ حق فقط سپریم کورٹ کو ہونا چاہیے۔

انتخابات میں حصہ لینے کے لئے پارٹی کی نااہلیت کی جو سفارش کی گئی ہے کہ جو در فیصد ووٹ یا جو قومی اسمبلی کی دو نشستیں حاصل نہ کر سکے اس کو اگلے سال کے لئے نااہل قرار دیا جائے جناب والا! میری یہ گزارش ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ بڑی نا انصافی اور زیادتی ہے کیونکہ ان کی آبادی بہت کم ہے اور اس سے پہلے سلسلے مارشل لا رہا ہے۔ ان چھوٹے صوبوں میں پہلے ہی احساس محرومی ہے اور ان کی حق تلفیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان کے ساتھ نا انصافیاں ہوتی رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ علاقائی نعرے لگتے رہے ہیں۔ علاقائی تنظیمیں بنتی رہی ہیں اور اگر ایسا ہو تو جو علاقائی نعرے لگتے ہیں اور جو فیڈریشن کی باتیں ہوتی ہیں ان کو شہ لے گی۔ اس لئے یہ جو سفارش کی گئی ہے اس کے لئے میری گزارش ہے کہ کم سے کم یہ باڈس اس سلسلے میں سفارش کرے کہ یہ قید یا یہ پابندی نہیں ہونی چاہئے۔

جناب والا! وفا داری تبدیل کرتے کے بارے میں جو سفارش کی گئی ہے۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے کیونکہ اگر جرم کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جرم کے مطابق ووٹ دے اور اگر ایسا نہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ یہ ان کے اوپر تلوار لٹکی رہے گی اور یہ ایک جمہوری روایت نہیں ہے۔ آخر میں میں یہ گزارش کر دوں گا کہ اس ملک میں جو کرپشن ہے جو مملکت ہوتی ہے جو یہ امنی ہوتی ہے اس کے تدارک کے لئے بجائے بیورو کریسی کے عوامی نمائندوں کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ شکریہ۔

جناب چوہدری : بہت بہت شکریہ جناب عبدالرحیم میرداد خیل میں ایک دفعہ

پھر خواست کروں گا کہ ابھی تک ہمارے بولتے والوں کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ لہذا اختصار سے کام لیا جائے۔

جناب عبدالرحیم میردادخیل: بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیرمین! میں مشکور ہوں کہ آپ نے نفسیاتی طور پر مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ دقت کم لوں پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اس پاکستان کا عظیم تر مقصد صرف اور صرف اس ملک میں اسلام اور جہودیت کا تقاضا ہی تھا کہ اس ملک میں صحیح طور پر قرآن اور سنت کا نظام قائم ہو۔

قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے جدوجہد کر کے یہ ملک حاصل کیا اور اس ملک میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لئے کارہائے مبغیہ سرانجام دیتے رہے بد قسمتی سے ان کے جانے کے بعد اس ملک میں وہ عناصر جمع ہوئے جنہوں نے صرف اور صرف اقتدار کی کرسی کی فاطر یعنی اگر اس کی کرسی محفوظ رہی تو ٹھیک ہے اگر اس نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ میری کرسی محفوظ نہیں ہے تو فوراً ملک کو دو ٹکڑے کر دیا۔ لہذا اس ملک میں ان پارٹیوں کو حصہ ملنا چاہیے جو اس ملک میں صحیح طور پر سیاسی شعور رکھتی ہوں۔ اس ملک میں یہی بد قسمتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ ایک ایسی آدمی ہے اس نے بھی پارٹی کا ایک نام رکھ لیا ہے۔ اگر اس کے پاس دو کارکن ہیں تو اس نے بھی پارٹی کا ایک نام رکھ لیا ہے۔ مزورت اس بات کی ہے کہ وہ دیکھیں کہ چاروں صوبوں میں اس کے کتنے کارکن اور کام کرتے والے ہیں۔ کیا اس کی تنظیمیں ہیں اور اگر وہ برسر اقتدار آتی ہے تو وہ اس ملک کو چلنے کی کیا صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا تجربہ ہمیں ۱۹۷۰ء کے الیکشن میں بھی ہوا کہ علاقائی پارٹیاں کامیاب ہوئیں۔ ان علاقائی پارٹیوں میں عوامی لیگ مشرقی پاکستان میں کامیاب ہوئی اور مشرقی پاکستان اسی کی وجہ سے الگ ہوا۔ لہذا اس دور کو یاد رکھنا چاہیے کہ علاقائی پارٹیوں کو کسی طریقے سے بھی حصہ نہیں ملنا چاہیے اور یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کو حصہ ملنا چاہیے جو چاروں صوبوں میں یکساں طور پر دو فیصد ووٹ ہیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں متناسب نمائندگی کے طریقے سے انتخابات ہوں اور متناسب نمائندگی کو منی چاہیے اگر سرسنت یہ بھی نہیں ہوتا تو قوم یہ کڑوی درد بھی پینے کے لئے تیار ہے تاکہ اس ملک میں جمہوریت پروان چڑھے۔

[Mr. Abdul Rahim Mir Dad Khel]

اس کے علاوہ برسر اقتدار حکومت پر یہ نہ جھوٹا جائے کہ جس کو پارٹی چاہے کالعدم قرار دے دے بلکہ اس کے تمام اختیارات سپریم کورٹ یعنی عدالتِ عظمیٰ کو دیئے جائیں اس طرح ہم اس عدالت کی عظمت کو دبا کر دیتے ہیں اور اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کی عظمت کو ہم نے سلام لکھا ہے۔ لہذا آپ کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کس پارٹی کو آگے لانا چاہتے ہیں اور کس کو کالعدم قرار دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو گا کہ ایوانِ جماعتِ اسلامی پر پابندی لگائی اور پیپلز پارٹی نے نیپ (NAP) پر پابندی لگائی۔ اسی طرح دوسری کوئی پارٹی آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم لیگ پر پابندی لگا دے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قول و فعل سے عدالتِ عظمیٰ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ کیس پیش کریں۔

اسی طرح سے علاقائی پارٹیوں کو قومی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے اور کم از کم دو فیصد ووٹ لینے والی پارٹی کو آگے لانا چاہیے۔ اس کو انتخابات میں کامیابی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے قول و فعل سے قومی پارٹی ہونا ثابت کرے تب عوام خود بخود اس کو آگے لائیں گے۔ اگر اس نے کام صحیح نہ کیا تو عوام خود بخود اس کو مسترد کر دیں گے۔ اسی طرح سے حکومت پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا اور ایک آزاد جمہوریت قائم ہوگی۔ اسی طرح جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے یہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ بیرونی حاکم سے فنڈ ہرگز حاصل نہیں ہونے چاہئیں۔ خواہ وہ سیاسی پارٹی مذہبی طور پر کیوں نہ ہو۔ خواہ وہ مذہبی پارٹی سیاسی طور پر کیوں نہ ہو اگر اس کو باہر سے کوئی چار آنے بھی ملیں تو اس کے ہاتھ کاٹنے چاہئیں۔ ایسے سیاسی لیڈر کو برسر عام تختہ دار پر چڑھانا چاہیے کہ تم اپنے کام کیوں اس طرح کرتے ہو۔ لہذا بیرونی حاکم کے جس طرح فنڈز پر پابندی ہے اسی طرح اس سیاسی پارٹی، اس سیاسی لیڈر پر یہ پابندی بھی ہونی چاہیے کہ وہ باطنی نظریات کو اپنے منک میں نہ پھیلے۔ ہمیں مکہ اور مدینہ کا تعلق اسی ملک میں نافذ کرنا ہے لہذا یہی نافذ ہوگا، روم کا نظام یہاں نہیں چلے گا، برطانیہ اور امریکہ کا نظام یہاں نہیں چلے گا البتہ اگر یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کالی کبلی دلمے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یہاں مکہ اور مدینہ کا نظام چلے گا۔ یہاں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جیسے تجاہد بن ہوں گے۔ اس طرح سے ہم نے قوم کو آگے لانا ہے ہم اس قوم کو بنیان مرموص کی طرح متحد کرتا چاہتے ہیں۔ واخذ ودعوانا انا الحمد للہ رب العالمین اب جناب تجھ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے۔

جناب چیرمین: نہیں جناب، بہت شکریہ، جناب شیخ علی محمد صاحب۔
شیخ علی محمد: بسم اللہ الرحمن الرحیم، جناب چیرمین صاحب،
رپورٹ کے آخر میں کہا گیا ہے۔

Immediately after the passing of the Act by the Houses, the Martial Law should be lifted forthwith.

جناب والا! سیدھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے اس سلسلے میں اعلان کر دیا ہے اور یہی توقع ہے ۳۱ دسمبر تک مارشل لا اٹھا لیا جائے گا لیکن خدا کرے کہ ایسا ہو۔ اس ملک کو مارشل لا کا بڑا منج تجربہ ہے۔ پہلے ۱۹۵۸ء میں مارشل لا لگا تھا، پھر دسمبر ۱۹۷۱ء میں بیجی خان کی مارشل لا کی حکومت ختم ہوئی تھی اور اس وقت تک بد قسمتی سے اس ملک کا ایک حصہ الگ ہو چکا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مارشل لا ختم ہو اور جلد ہی ختم ہو۔ نہ صرف یہ کہ مارشل لا ختم ہو بلکہ اس کے بعد ملک میں مکمل جمہوریت بحال ہو، کوئی ایجنسی نہ ہو، کوئی ڈی پی آر نہ ہو، کوئی ون پارٹی حکومت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مارشل لا تو اٹھا لیا جائے لیکن ایسے جنسی بھی قائم رہے ڈی پی آر بھی قائم رہے اور شخصی حکومت بھی قائم رہے۔

اب جناب والا! میں مختصر اس کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں عرض کروں گا۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ رجسٹریشن کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ملک کو بیو کر لیسے نے نقصان پہنچایا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم بیو کر لیسے کو ایسا مواد مہیا کر رہے ہیں کہ جب اسے استعمال کر کے ہماری سیاسی حالت ختم کر دے۔ اس لئے رجسٹریشن کا جو عمل رکھنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آزاد ملک ہے یہاں آزاد پارٹیاں ہونی چاہیں اور ان کو آزادی سے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پابندیاں کیوں رکھی جاتی ہیں۔ یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں اور کس کو وہ ناپسند کرتے ہیں اس لئے رجسٹریشن کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے جناب والا! ہمیں اپنا سارا زور اداروں کو پھینے دئے جانے پر لگانا چاہیے۔ اس ملک

[Shaikh Ali Muhammad]

One man rule میں جمہوری ادارے پیپے یہاں رہا ہے۔ خواہ یہ غلام محمد کا ہو، سکندر مرزا کا ہو، ایوب خان کا ہو، یحییٰ کا ہو، جسٹو صاحب کا ہو یا کسی اور صاحب کا ہو۔ جب تک وہ برسرِ اقتدار رہے ان کی بڑی تعریفیں ہوئیں، بڑے دُصول بجائے گئے۔ جب تک وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو پتہ نہیں ان کے متعلق کیا کہا گیا۔

جناب والا! اس وقت حالت یہ ہے کہ جمہوری اداروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب قومی اسمبلی اور سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو ان کے اجلاس سے پہلے پھر ملک کے آئین میں ترامیم کر دی گئیں۔ جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھیں، یہ ترامیم یہاں ہاؤس میں ہونی چاہیے تھیں تاکہ ان ایوانوں کا دتار بڑھتا۔ جناب والا! ایسی گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اسی ایوان میں وزیر داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ کراچی کا مقبوری کیس ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا لیکن ابھی وہ اعلان گونج رہا تھا کہ وہاں ملٹری کورٹ میں کیس چلنا شروع ہو گیا اور اب پھر وہ کیس شروع ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس ایوان میں وزیر داخلہ اعلان کرتے ہیں تو پھر اس اعلان کی کیوں مٹی پلید ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وزیر داخلہ صاحب اس کا نوٹس لیں گے۔

جناب والا! ہماری قوم ون مین رول one man rule سے بڑی سہمی ہوئی ہے اس قدر سہمی ہوئی ہے کہ سچ بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حدیہ تھی کہ غلام محمد جیسا آدمی، جو نہ بول سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا، وہ محافظ ملت بن گیا اس کو ہم نے یہ خطاب دیا اور وہ حکومت کرتا رہا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک دھمکڑے ہو گیا۔

disqualifications of the Political Parties اب جناب والا! ایسی

کے بارے میں عرض کر دوں گا۔ اس سلسلے میں میری یہ گزارش ہے کہ پارٹیوں کو disqualify کرنے کا حق بھی عوام کو حاصل ہے۔ اس بات کا فیصلہ عوام کریں گے کہ کون سی پارٹی رہے گی اور کون سی نہیں رہے گی۔ اگر جناب والا، آپ نے پارٹیوں کو اس طریقے سے ختم کرنا ہے اور ان کو نکالنا ہے تو کم از کم میری رائے میں ان کو دو الیکشنوں میں حصہ مزدور لینے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر وہ چار یا پانچ پرسنٹ ووٹ لیں تو پھر بھی ان کو ایک بار موقع دیا جائے۔ اگر آپ اس طرح ہتھی کر سکتے تو کم از کم دو بار

ان کو ایکشن میں حصہ لینے کا موقع ضرور دیا جائے۔

جناب والا! جہاں تک کراسنگ آف فلور کا تعلق

crossing of floor

ہے میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ جمہور کو اس بات کا حق ہونا چاہیے کہ پارٹی سے انہیں جس بات پر اختلاف ہے وہ اس کا اظہار کریں۔ بڑے ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے، خواہ وہ امریکہ ہو یا برطانیہ، وہاں جمہور کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی مسئلے پر اختلاف کریں۔ لیکن ان کی اس بات پر تعمیری ختم نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پارٹی کا مفاد ہو، جہاں حکومت کا اعتماد ہو تو اس صورت میں ممبر شپ سے ہٹایا جاسکتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر اگر حکومت کہتی ہے کہ مارشل لا کو تین دن بڑھایا جائے تو کیا ضروری ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں۔ ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے اس لئے ہمیں یہ حق ہونا چاہیے کہ جس بات پر ہمیں اختلاف ہو اور یہ اختلاف طائر ہو، اس کے حق میں ووٹ نہ دیں۔

جناب والا! اس رپورٹ میں سیاسی پارٹیوں کا بھی ذکر آیا ہے میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ آئین میں آرٹیکل ۷۷ ہے اور اس کی شق (۲) میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے فنڈز کو منجمد کیا جائے۔ یا کچھ اور کیا جائے۔ صرف یہ ہے کہ حکومت اعلان کے بعد ۱۵ دن کے اندر انڈر سپریم کورٹ میں ریفرنس پیش کرے گی کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ یہ جماعت کا عدم ہونی چاہیے یا نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہی فیصلہ برقرار رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ کو یہ کہنا کہ چاہے کہ وہ دو چھینے کے اندر یا چھ چھینے کے اندر اس ریفرنس کا فیصلہ دے تاکہ جلد انصاف ہو سکے۔

جناب والا! میں آخر میں یہی عرض کر دوں گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات جو کہ پسند نہ ہو تو اس پر ہم فتویٰ دے دیتے ہیں اس وقت کچھ باتیں سمجھ رہی ہیں۔ کچھ لوگ ناراض ہیں اور وہ کچھ عجیب مطالبے کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ مطالبے کر رہے ہیں لیکن یہ بھی سیاسی طور پر دیکھنا چاہئے کہ وہ جو اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ان کو کیا تکلیف ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مریض کہے کہ مجھے کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا علاج کیا جائے، اس کو مارنا شروع کر دیا جائے کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہیں کوئی مرض

[Shaikh Ali Muhammad]

ہے۔ اسی لئے مہربانی کر کے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ لوگوں کو بولنے کا حق دیا جائے۔ اور سیاسی طریقے سے ان سے بات چیت کر کے اپنی باتیں منوانی چاہیں۔
شکر یہ۔

جناب چیرمین: بہت بہت شکر یہ جناب احتراز خان سے۔

جناب احتراز خان: جناب والا! آج جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ سپیشل ٹیپ کی رپورٹ ہے۔ سب سے پہلے میں کھیٹی کے چیرمین اور اس کے ممبران کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اتنی عجلت میں یہ رپورٹ پیش کی ہے جس کو پوسٹے ہاؤس نے سراہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جناب والا! میں یہ عرض کروں گا کہ یہ رپورٹیں بنوانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جب کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام پارٹیاں، اس ہاؤس کی میجرٹی، نیشنل اسمبلی کی میجرٹی اس پر متفق ہے کہ ۱۹۷۳ کا آئین جو ہے اسی کو مکمل طور پر بحال کر دیا جائے۔

سب سے پہلے جناب عالی! میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کھیٹی کی رپورٹ سے یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی ایک پارٹی کے لئے سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کے لئے جناب عالی! میں یہ عرض کروں گا کہ اس سے پہلے اس ملک میں کافی تجربے ہو چکے ہیں اور ان تجربوں کی بنا پر جو کچھ ہوا اس ملک میں آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ ملک اس حالت میں نہیں تھا۔ ہمارے تجربوں نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ جناب عالی! یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو کہ ملک کی یعنی پاکستان کی مخلص نہیں ہیں۔ لیکن جناب عالی! میں اتنا عرض کروں گا کہ اس وقت ہتھی پارٹیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ پاکستان کی مخلص ضرور ہیں۔ ہاں ایک بات ہے جو یہاں پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جناب عالی! وہ تمام دنیا میں ہے۔ کہ اگر ان کی کشمکش ہے تو وہ صرف کرسی کے لئے ہے۔ ہر پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ میں کرسی تک پہنچوں آج بھی یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کچھ کرسی کے لئے ہو رہا ہے اس لئے جناب عالی! میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں، منیٹ تمام غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب ہو کر آئے ہیں آج مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ فلاں پارٹی میں بائیں یا فلاں پارٹی میں نہ جائیں، سب سے

پہلے سیاسی پارٹیوں کو بحال ہونا چاہیے جس وقت سیاسی پارٹیاں بحال ہو جائیں۔ اس وقت عمران کا کام ہے کہ وہ کس پارٹی کے منشور سے اتفاق کرتے ہیں۔ کون سی پارٹی کو وہ اپنے لئے منتر سمجھتے ہیں۔ اس پارٹی کو وہ اپنے لئے بہتر سمجھتے ہیں اس میں وہ چلے جائیں۔

جناب نالی اب انجیہ میں کوئی نام نہیں کہ کچھ لوگ جس وقت سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فرمایا تھا انہوں نے یہ کہا تھا، نام ہم ان کا لیتے ہیں تو ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو کہا تھا اس پر ہم نے کتنا عمل کیا۔ جس وقت ان کی بہن محترمہ ناطقہ جناح کا ایکن ہو رہا تھا اس وقت ہم لوگ کہاں تھے۔ ہمارے ظہیر کہاں تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اس میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا جو کچھ اس وقت ہوا اور جو کچھ کراچی والوں کے ساتھ ہوا وہ یہاں موجود بیٹھے ہیں۔ جناب عالی! رہی یہ بات کہ جس شخصیت کا ہم آج یہاں ذکر کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں ان کا احترام کرتے رہیں گے لیکن ان کی وفات کے بعد جو محشر ہوا وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے۔ اس لئے میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے جناب والا! وہ یہ ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں وہ مخلص ہیں سب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور جس جمر کی جو مرنی ہو وہ اپنی مرچا کرے جس کو وہ بہتر سمجھے اس میں جائے۔ وہ آزاد رہنا چاہے تو اسے آزاد رہنا چاہیے۔

رہا یہ سوال جناب والا! کہ وہ کہتے ہیں جاکہ پارٹی ڈیپلن کی خلاف ورزی نہیں ہوتی چاہیے اور اس کے ساتھ ایک مثال یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب عالی فلاں پارٹی جس وقت برسرِ اقتدار آئی تو اس نے اپنے جمروں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن جناب عالی! وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے جمروں کی تمسخر منسوخ کر دی۔ اس لئے جناب عالی! ذکر ہم کرتے ہیں کبھی بھارت کا کبھی برطانیہ کا کبھی فرانس کا، ہمیں اپنے ملک کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لئے جناب عالی! میری یہ گزارش ہے کہ جس پارٹی کو بھی یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جمر شپ منسوخ کر سکتی ہے تو محشر بھی ہو گا کہ ایک دن ہم پشاور کو رنٹ

[Mr. Akhtar Nawaz Khan]

ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے ایک بزرگ منظر صاحب نے کہا کہ جناب پارٹی ڈپلن اس قسم کا ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں اس طرح پنسل تھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ میرے ہاتھ میں پنسل ہے اور پارٹی ڈپلن یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ گلڈان ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ گلڈان ہے۔ اگر آپ پنسل کو گلڈان نہیں کہیں گے تو جناب آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اب جناب عالی! جہاں پارٹی ڈپلن یہ ہو کہ آج آپ کا جو پارٹی ایکٹ بن رہا ہے ابھی وہ بنا نہیں لیکن آج ہی جمروں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آج ہی آپ پنسل کو گلڈان کہنا شروع کر دیں۔ تو اس لئے جناب عالی! میں صرف اتنی انتہا س کروں گا کہ یہ جو بھی پارٹی ہو اور جس پارٹی میں کوئی تمسیر جانا چاہے یہ اس پارٹی کا کام ہے کہ وہ پارٹی اپنے منشور میں یہ چیز رکھے کہ جو بھی اس کے پارٹی ڈپلن کی صلاح درزی کرے گا اس کے خلاف یہ کیا جائے گا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اس میں حکومت اپنے آپ کو کیوں ملوث کر رہی ہے۔

جناب عالی! دو فیصد ووٹ لینے کا معاملہ تو جناب عالی! مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیوں اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتی ہے یہ بھی عوام کا کام ہے کہ جس کو وہ پسند کریں گے اس کو وہ ووٹ دیں گے جس کو وہ پسند نہیں کریں گے اس کو وہ ووٹ نہیں دیں گے اور جس وقت ووٹ نہیں دیں گے تو ایک پارٹی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس میں مداخلت کرتی پھرے۔ اس لئے جناب عالی! میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ جو ہاؤسز غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو فی الحال اسی طرح چلنے دیا جائے جب تک پارٹیاں بحال نہیں ہوتیں۔ یہ کوشش کرنی چاہئے کہ سب سے پہلے سیاسی پارٹیوں کو بحال کیا جائے اور جس وقت سیاسی پارٹیاں بحال ہو جائیں، اس کے بعد ہی جمروں کا اپنا کام ہے کہ جس پارٹی کو وہ پسند کرتے ہیں اس پارٹی میں چلے جائیں۔ اس کا جو منشور ہے اس کو وہ اگر پسند کرتے ہیں اس میں جائیں لیکن اس میں حکومت کی مداخلت کسی طرح بھی جائز نظر نہیں آتی۔ باقی ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نڈان چیز جو ہے وہ حکومت کرے گی پھر آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں تو الیکشن کمیشن بھی تو حکومت کا حصہ ہے جناب عالی! تو کیوں نہ یہ کہ جائے کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس پر ہم کورٹ میں چلا جائے۔ جناب عالی! جبکہ صدر

حکومت نے اتنی فراہمی سے ۲۳ مارچ کے مشترکہ اجلاس میں کو اعلان کر دیا تھا کہ جو رپورٹ قومی اسمبلی تجھے بھیجے گی اور جو ترائیم اسمبلی چاہتی ہے کہ ان کو خارج کر دیا جائے ان کو ہم خارج کر دیں گے۔ جناب عالی! رینیشنل اسمبلی کا کام ہے اس کے بعد سینٹ کا کام ہے۔

کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ ۲۳، ۱۹، ۱۸ کا آئین بحال ہو جائے لیکن ہم ایک آواز ہو کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جناب یہ ترائیم جو یہی یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ کیوں کہ صدر حکومت نے تو کہہ دیا ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ میں کرتے کے لئے تیار ہوں اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ۱۴ اگست کو جناب وزیر اعظم نے لاہور میں ۳۱ دسمبر تک مارشل لا اٹھانے کے متعلق کہے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا کرے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ لیکن ہمارا یہ جو طریقہ کار ہے اس پر اگر ہم بحث کرتے رہے یا اس میں اپنے آپ کو الجھائے رکھا تو اس میں کافی خطرات نظر آ رہے ہیں۔ اس لئے میں یہ عرض کروں گا کہ جب تک سیاسی پارٹیاں بحال نہیں ہوتی جس طرح یہ سلسلہ چلتا ہے اسے چلنے دیا جائے۔

جناب چیرمین: بہت بہت شکریہ، جناب نواب چھٹاوی صاحب!
جناب راحت سعید چھٹاوی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور والہ! آپ سوں تجھے ۲۹ مئی سپیشل کمیٹی کی وہ رپورٹ ملی جو نیشنل اسمبلی میں پیش کی گئی ہے اس سے پہلے تجھے سینٹ کی سپیشل کمیٹی کی رپورٹ مل چکی تھی۔ لہذا میں نے کئی شب بیٹھ کر دونوں کا موازنہ کیا دونوں میں بڑی دیدہ ریزی اور بڑی محنت سے کام لیا گیا ہے۔ لیکن جس وسعت نظر کا مظاہرہ سینٹ کی رپورٹ میں کیا گیا ہے مجھے وہ نیشنل اسمبلی میں نظر نہیں آیا۔ اس لئے میں سینٹ کی کمیٹی کے چیرمین اور اس کے ممبران کو مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

جناب والد الاعلیٰ و عزیز بات ہے میری عمر اتنی ہو چکی ہے۔ اوہیں نے متعدد دور دیکھے ہیں انہی کانوں سے ایک زمانے میں یہ آواز سنی تھی کہ ہمیں مارشل لا چاہیئے اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی۔ انہی کانوں سے آج یہ آواز سن رہا ہوں کہ ہمیں مارشل لا نہیں چاہیئے اسے اٹھا کر لے جاؤ۔ مجھے خیال آیا کہ ایک بزرگ نے بڑے

[Mr. Rahat Saeed Chhatari]

مزنے کی بات کہی کہ بھئی اپنے لوگ دنیا میں نادر ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جہاں انسان کا نام قریش پور اور لہتی کا نام میاں چنوں رکھا جاتا ہے۔ بس اس سے ہٹ کر جو بات مجھے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے مارشل لا لگایا تھا۔ اسی نے تو الیکشن بھی کرائے ہیں اور سول حکومت بھی بنائی ہے اور اس کا اعلان بھی کیا ہے کہ مارشل لا دہٹے گا۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سربراہ حکومت بن کر آیا ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے۔ کہ مارشل لا رادریول حکومت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتیں۔ درالحالیکہ جس جمہوری دور پر ہم نازاں ہیں اور جس آئین کی ہم بات کرتے ہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے اس جمہوری دور میں جو لوگ الیکٹ ہو کر آئے تھے ان کا اصرار تھا کہ سویلین ہیڈ مارشل لا دے گا رہے اور مارشل لا کو قائم رکھا جائے یہاں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ درحقیقت مارشل لا کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جن اداروں کی ہم تشکیل کر رہے ہیں۔ انہیں کس طرح طاقت بخشی جائے۔ کس طرح یہ جو نمائندہ حکومت ابھر کر آئی ہے مضبوط ہو کر سامنے آئے اور اپنے معاملات کو صحیح طور پر انجام دے سکے۔ اس کے پیش نظر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ جو دو بورڈیں ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینیٹ کی ہمارے سامنے آئی ہیں وہ کس حد تک اس میں حمد و معاد ن ثابت ہو سکتی ہیں۔

مجھے مودبانہ طور پر یہ عرض کرنا پڑے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کا وجود جب آتا ہے تو وہ ان کی فکر و نظر کی بلوغت کی پہچان ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز ٹیٹل ٹیوب بے بی نہیں ہوتیں اور ان کو ان کے Incubator میں پرورش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاشرے میں جنم لیتی ہیں اور معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں۔ معاشرے کے ذہن و فکر کے تحت ان کی تربیت اور توانائی ہوتی ہے۔ اس صورت کے پیش نظر یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہمارے ملک میں ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی یہ کام ایڈمنسٹریشن کا نہیں ہے سیاسی پارٹیاں سیاسی لوگوں کے ہاتھوں بنتی یا بگڑتی ہیں۔ یہ ایڈمنسٹریو ایکشن سے نہیں بنتی ہیں اور نہ بگڑ سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ حکومت کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں اور کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ ان آفیسوں اور ان فرائض کو پورا کرنے کے لئے کچھ قوانین کا اجراء بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں لیکن جس چیز نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہ

ہو کہ آٹھ برس کے بعد ہم الیکشن کرا کے جس طرح ان اداروں کو واپس لے کر آئے ہیں۔ اور ان فائینڈوں کو واپس لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ حکومت ایم آر ڈی سے اتنی پریشان ہو گئی کہ اس نے ان تمام پارٹیوں کی رجسٹریشن بند کر کے نئی رجسٹریشن کے ماتحت نئی پارٹیاں بنوائی ہیں جو حکومت کی ماں میں ماں ملاتی ہیں۔ جس دن یہ ہوگا۔ میرے لئے اور اس ادارے کے لئے سٹرم سے ڈوب مرتے کا مقام ہوگا۔

میں چاہتا ہوں کہ ہم مرادز دار حالات کا مقابلہ کریں ہم اٹھیں اور کہیں کہ ہم جمہوریت کو لے کر آئے ہیں، جمہوریت کو لانے کی نیت سے آئے ہیں۔ ہمیں ملک کی خدمت کرنا ہے جس جس کسی کو جو کچھ کہتا ہے وہ آئے اور ہم سے کہے۔ اگر یہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے تو جمہوریت کا نغزہ لگاتے کا ہمارے پاس کوئی بھی جواز نہیں بنتا۔ گذارش یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈپلن پارٹی میں ہونا چاہیے۔ مزور ہونا چاہیے۔ بہت سے ایسے حمالک ہیں جہاں پولیسی پارٹیز کے ڈپلن کو گنوا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ اس ۷۷ سال کی عمر میں مجھے ایک بھی واقعہ ایسا یاد نہیں ہے کہ جہاں فلور کراس کر کے حکومت کی طرف سے کوئی ادنیٰ کسی پارٹی میں جا کر مل گیا ہو۔ جب کبھی فلور کراس کیا ہے تو پارٹی سے نکل کر حکومت میں مل گیا ہے۔ اس کے پیش نظر سزا حکومت کو ملنی چاہیے یا پارٹی کو؟ یہ مسئلہ کرنا چاہیے۔

اب ایک بہت ہی نازک نکتہ ہے، جس کے بارے میں مجھے اظہار خیال کرنا ہے اور وہ مسئلہ ۱۹۷۲ کے آئین کا ہے۔ ۷۷ کے آئین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوری ہے۔ میرے نزدیک وہ قطعی غیر جمہوری ہے اس لئے کہ اس میں تمام تر طاقت ایک آدمی کے ہاتھ میں مرکوز کر دی گئی ہے لہذا یہ کوئی جمہوری آئین نہیں ہے۔

An honourable Member: Question, question.

جناب چیئرمین: آپ جاری رکھیں۔

جناب راحت سعید چھتاری: ایک ادنیٰ کے ہاتھ میں پوری طاقت مرکوز کر دی گئی اس جمہوری پارٹی نے جب یہ طاقت میں آئی تو جو کچھ بلوچستان اور فرنیٹر میں کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ طاقت میں آنے کے لئے انہوں نے جس طرح اس ملک کے ٹکڑے کر دیئے

[Mr. Rahat Saeed Chhatari]

وہ بھی ہمارے سامنے ہے اگر جمہوری طریقے پر اس ملک میں حکومت بنتی تو یہ ملک کبھی دو تخت نہ ہوتا۔ لیکن ضرورت اس کی پیش آگئی تھی کہ یہاں ہم دہاں تم لہذا میری گزارش کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون میں یقیناً ترامیم کی جائیں گا اور اس کو جمہوری بنانا ہوگا۔ اور اس میں ایک توازن قائم کیا جائے گا جو صدر اور وزیراعظم کے درمیان ہو، تاکہ ہمارے ملک میں ہماری جمہوری روایات ان کے مطابق عمل میں آسکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ سبق پھر دہرایا جائے گا۔

جناب چیئرمین: شکریہ۔ جناب فضل آغا صاحب۔

انجینئر سید محمد فضل آغا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین! اس سے پہلے کہ میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ پر کچھ کہوں یا گذشتہ ملکی حالات پر کچھ تبصرہ کروں میں جناب وزیراعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ۱۴ اگست کو اس ملک سے مارشل لا اٹھانے کا وعدہ کیا ہے جو کہ ۱۹۷۳ سے پہلے پہلا یورا ہوگا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں دونوں کمیٹیوں کے اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بہت کم عرصے میں بہت زیادہ محنت کر کے رپورٹیں بتائی گئی ہیں۔ لیکن انسان ہر وقت ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتا یہ ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں کو ان سے اختلافات بھی ہوں گے۔ اور میں سیکرٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی چھپائی اور ڈرافٹنگ میں بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ لیکن جناب والا! اردو کی چھپائی میں کچھ تھوڑی سی کسر باقی ہے۔ دیا پچے کے شروع میں لکھا جانا چاہیے تھا جو دیا پچے کی حالت ہے اگر یہ لفظ دہاں ہوتے کہ

صحا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔

تو زیادہ بہتر ہوتا اس لئے کہ جب اس دیا پچے کو آپ پڑھتے ہیں تو آخر میں پہنچ کر پتہ یوں چلتا ہے کہ کسی ایک ہی چینل پر دو سٹیشن لگ گئے ہیں ایک پر قوالی ہو رہی ہو اور دوسرے پر تقریر اور اگر آپ چاہیں تو ان ساری لائینوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک شق کی لائن اٹھا کر کسی اور شق میں لگا دی اور ادھر کی کہیں اور لگائی ہوئی ہے میرے پورے بارہ گھنٹے اس پر ضائع ہوئے اس لئے کہ میری انگلش کی کاپی کوئی اور صاحب اٹھا کے لے گئے اور میں یہی دیکھتا ہوں کہ گزارش ہے کہ آئندہ قدامت اس قسم کی رپورٹوں پر زیادہ

توجہ دی جائے اور جو صاحب **Finally** اس کو **approve** کرے خود اسے کو بڑی تسلی سے اس کو پڑھنا چاہیے تاہم مشکوہ ہوں یہ **Human Errors** ہیں۔

اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں ایک پارٹی کا **Concept** ہے اور اسلام میں زیادہ پارٹیاں نہیں ہو سکتیں۔ اس کے لیے میں آپ کو شرعی دلیل دوں گا۔ شرعی فقہ موجود ہے میں فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہوں امام اعظم صاحب نے خود فرمایا ہے کہ باقی جتنے بھی فقہ ہیں ان کو آپ یکساں قدر کریں ان سب کا **approach** اسلام کی طرف ہے اپنی تحقیقات کے مطابق جیسی میں مالکی حنبلی، شافعی اور فقہ جعفریہ بھی شامل ہے۔ میرا فیصلہ ہے اسلام میں ایک سے زیادہ پارٹیاں ہو سکتی ہیں لیکن ان کا مقصد اسلامی اور پاکستانی جمہوریت کے متعلق ہونا چاہیے ان کی منزل مقصود ایک ہونی چاہیے گو کہ **line of action** مختلف ہو سکتی ہیں اسی نظریے کو یہی مسترد کرنا ہوں کیوں کہ اس ملک میں ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے اسلام کے ذریعے دوسری پارٹی نہیں ہو سکتی ہے کیوں کہ آپ کے سامنے فقہی موجود ہیں اور اس ہاؤس میں اکثر لوگ اُس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں جیسی میں امام صاحب نے خود فرمایا ہے کہ دوسری فقہوں کی بھی آپ یکساں قدر کریں۔

اس کے علاوہ میں نے اسی بیلٹی کا تمام سفارشات کو غور سے پڑھا ہے اس میں کچھ تجاویز ایسی ہی جیسی کے متعلق آپ مجھ سے اتفاق نہ کریں لیکن میرے ذہن سے یہ ٹکراتی ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان پر ایک ایک کر کے **discuss** کروں اگر لاڈ ڈیپارٹمنٹ مناسب سمجھے تو اپنی **adopt** کرے یا اس پر مزید سوچے۔

رجسٹریشن کے جتنے **Acts** ہیں ان سب سے میں اتفاق کرتا ہوں اس لیے کہ ہم ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو خود کو مسلمان کہتی ہے اور ایک عین کے تحت رہتی ہے اور اگر ہم اس ڈیپارٹمنٹ کو توڑ دیں تو ہم مزید مسلمان نہیں رہتے ہیں اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں کہ پارٹیز کے لیے ایسے **Acts** اور

[Eng. Syed Muhammad Fazal Agha]

ڈسپلن بنائیں۔ جو کہ خلوص پر مبنی ہوں کسی بھی موجودہ پارٹی یا گورنمنٹ پارٹی یا کسی بھی ایک پارٹی کو initiate کرنا ہو یا ایک پارٹی کو favour نہ کرنا ہو تو یہ سمجھتا ہوں کہ پریٹیکل پارٹینر ایکٹ کا ہونا نہایت ضروری ہے اور اس سے کسی پارٹی کو نہیں گھبرانا چاہیے۔ اس طرح ان میں ڈسپلن رہے گا اور ملک میں جمہوریت چھل چھول سکے گی اور اس میں مزید ترقی ہوگی۔ پرانی رجسٹرڈ پارٹیاں ایک پرانے ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتی تھیں۔ اب ہم ایک نئے ایکٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے قیام پر بنا رہے ہیں یہی سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہمارے ملکی بقا، سلامتی اور یکجہتی ہے۔ وہ تمام پارٹیاں جو پہلے رجسٹرڈ تھیں میری تجویز ہے کہ ان کے بشمول تمام پارٹیوں کی رجسٹریشن ہونی چاہیے

Disqualification for the next election

دانی حویات ہے اس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی مختلف تجاویز ہیں بعض نے کہا ہے دو پر سینٹ و دوٹ لیٹامز دی ہے اور بعض نے 5 to 7% votes from each province اور کچھ نے 5 فیصد لینے کا کہا ہے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم دو سیٹوں کا لیٹامز دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بدشہسی ہونی چاہیے ہر پارٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت خود کو رجسٹرڈ کراتی ہے اور انہیں قواعد کے تحت چلتی ہے تو ان کو الیکشن میں باقاعدہ حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے اگر وہ کسی الیکشن میں دوٹ نہیں لے سکتی یا جو آپ کی requirements ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی requirements نہیں ہونی چاہئیں وہ یا تو اپنی موت آپ مر جائیگی یا اگلے الیکشن کے لیے بہتر کام کرے گی جس سے جمہوریت اچھی طرح سے چھل چھول سکے گی بجز وہ دیکر وہ خود بخود eliminate ہو جائیں گے ہمیں اسی قیام پر خواہ مخواہ اس جھگڑے کو بول لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ان لوگوں کو جو باہر ہیں خواہ مخواہ criticism کو نیک صورت میں اہترامی اس پر اصرار کرتا ہوں کہ یہ جو disqualification for the next election کی شرط ہے اس کو نکال دیں۔ اگر وہ باقی conditions کو fulfill کرتے ہیں تو انہیں بے شک openly الیکشن میں حصہ لینے دیں۔

جناب پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کی سق ۲ اور ۸ میں دو مختلف باتیں ہیں ان دونوں کے

de-registration basic grounds پر ایک ہی لیکچر

submission of accounts میں ایک بات ہوتی ہے کہ اگر پارٹی

fail ہو جائے یا وہ اپنے پرائیمری ایکٹیوٹی نہ کر سکے لیکن باقی

rest of the ground are similar

تو سر میری تجویز ہے کہ ان دونوں سقوں کو ایک جگہ کیا جائے اور گورنمنٹ کے پاس کسی پارٹی کو از خود معطل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔

میں اس پر بھی زور دوں گا کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کمیشن ہے جس کو یہ کہتے

ہیں کہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے جو Under the dictation of the Govt.

کہتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرح آزاد ادارہ کی لائسنس پر لایا جائے۔ اور جو بھی بات کمیشن از خود محسوس کرے کہ کوئی بھی پارٹی جو اس ملک میں

چل رہی ہے کیا وہ اس ایکٹ کے خلاف کام کر رہی ہے یا نہیں اگر کوئی پارٹی الیکشن کمیشن کے پاس complaint lodge کرے تو الیکشن کمیشن اس کو کلوڈ اپ کرے

اور اس کے بعد جو agrieved party ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے اور کورٹ کا فیصلہ آخری ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو یہ اختیار ہو

کیوں کہ کسی وقت کوئی بھی پارٹی Rule کر سکتی ہے کہ وہ از خود کسی پارٹی کو معطل کرے یا اس کے فنڈز سجنڈ کر دے دس پندرہ دن بعد سپریم کورٹ میں

دیفنس کرے۔ سزا میں سمجھتا ہوں کہ de-registration اور dissolution

میں کوئی فرق نہیں ہے ان نمبر ۲ اور نمبر ۸ شقوں کو ملا کر ایک کیا جائے اور اس کی line of action ایک ہونی چاہیے

اس کے علاوہ crossing of floor کا ایک پرابلم یہاں اس ایکٹ میں

raise کیا گیا ہے۔ دلیسے تو بہت اچھی بات ہے کہ دوبارہ میں اپنی فقہہ کی طرف جاؤں گا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ آپ ایک فقہہ سے دوسری فقہہ میں جاتے ہیں

تو اس میں بھی سزا ہے دلیسے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو crossing of floor

میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور سزا ہونی چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایکٹ ایک

[Eng. Syed Muhammad Fazal Agha]

دو ماہ بعد منظور ہو گا اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو ستر ا دے سکیں گے کیوں کہ اس قدم میں اور قومی اسمبلی کے قدم میں جو لوگ آئے ہیں وہ بالکل independent آئے ہیں ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ بدل ان پر اپلائی نہیں ہو سکے گا۔ میرے خیال میں اگلے الیکشن کے لیے تو صحیح ہے لیکن موجودہ دنوں قدم تر پر apply نہیں ہو سکتا اور اس وقت نہ ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ ہے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ لارڈ پیپل ٹمنٹ کب اس کو enforce کرے۔

اب اس کے علاوہ اس رپورٹ کو پڑھا ہے تو کچھ تشنگی والی بات ہے آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو کافی حد تک tackle تو کیا ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے جمہوریت کا بذات خود ایک process ہیں اور اس process کو ہماری کمیٹی کے عمیران نے چیک نہیں کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا قومی لیول پر ہر تین سال بعد الیکشن ہونا چاہیے ان کے ہیڈ کے لیے بہت فردی ہے تین بعد سال الیکشن فردی ہونے چاہیے تاکہ وہ جمہوریت کو خود اپنا سکیں اور پارٹی پر جو جاگیر داری ہے وہ بھی ختم ہو سکے ان کے صوبائی، صلی اور تحصیل لیول پر ہر سال الیکشن ہونے چاہیں۔ اور پھر یہ بھی پابندی ہونی چاہیے کہ ایک Head of the party تین tenure سے زیادہ صلاحیت نہ کر سکے۔ نین دفعہ اگر وہ آتا ہے تو اس کو پھر خود بخود آفس چھوڑنا چاہیے اس کے بعد کوئی دوسرا آدنی آئے۔

اس سارے پریسیس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک آزاد ادارہ بنانا چاہیے اور پھر الیکشن کمیشن کا ممبر ان پارٹیوں کے الیکشن میں موجود ہونا چاہیے یہ الیکشن Through secret Ballot paper ہونا چاہیے کیوں کہ اگر ہم پارٹی کو basically جمہوریت میں نہ ڈالیں گے تو وہی لوگ ہمارے نیشنل فورم پر آتے ہیں اور جب ان کو وہاں ڈیکٹیشن کی عادت پڑ جاتی ہے وہ وہاں جمہوریت کو بحال نہیں رکھ سکتے تو جب وہ نیشنل لیول پر آتے ہیں تو ان کا mental attitude سہی رہنا ہے اور ہمیشہ dictate کرتے رہتے ہیں۔ بہت مناسب تجویز ہے اور اس کو اس میں شامل ہونا چاہیے تاکہ پارٹیز کے الیکشن

کے طریقہ کار کو واضح کیا جائے۔

اس کے علاوہ ایک تجویز میری یہ ہے کہ اگر کوئی سربراہ پارٹی الیکشن میں جیت گیا تو وہ پارٹی کے استناد کا ورڈ لے کر ہیڈ آف دی سٹیٹ یعنی صدر یا وزیر اعظم بننا ہے اس کوئی انفرادی پارٹی کی صدارت سے استحضاد لینا چاہیے۔ تاکہ دوسرا آدمی آ کر take over کرے اور ایک وقت میں اس کو پارٹی کا ہیڈ اور گورنمنٹ کا ہیڈ نہیں رہنا چاہیے۔ اس طرح اس کی پادری زیادہ ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں میری یہ تجویز بھی قابل غور ہے۔

جناب والا! اس کے علاوہ میں آپ کے توسط سے اور اس ایرا کے توسط سے پوری قوم کو ادھاری یعنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان سب کو یہ request کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر اس قوم کو اس بحران سے نکالیں اور ہر بات پر تنگ نظری کا ثبوت نہ دیں۔ ہم نے کافی تبلیغ تجربہ کیا ہوا ہے ہمارا ملک بہت بھراؤن سے گزر رہا ہے اور یہ تمام ups and downs کی وجہ سے ہے کہ ہم آج تک جمہوریت کی راہ متعین نہ کر سکے ہیں سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کر آگے چلنا چاہیے اور یہ تمام رولز without prejudice واضح ہونے چاہیے اور ان کو impartial ہو کر frame کرنا چاہیے باقی کوئی پارٹی حکومت میں ہو یا نہ ہو سب کو equally trial کریں میں سمجھتا ہوں کہ میری گزارش آپ کے توسط سے پوری قوم کو مل جائے گی اور یہ میری request ہوگی

میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو آئینی تحفظ دیا جائے اس کو باقاعدہ آئین کا حصہ بنایا جائے۔ تاکہ آئے دن کا یہ مذاق بھی ختم ہو جائے موجودہ فوڈم اس کو کچھ بنالے اور اس کے بعد دوسرا کوئی آئے تو وہ اپنا بنالے ہم پچھلے ۲۸ سالوں سے اس قسم سے تجربہ کر چکے ہیں اور انہی وجوہات کی بنا پر ہم آئین نہیں بنا سکے تھے اور ہم کسی بات پر کہ یہ آفری چانس ہے اس لیے ان دونوں فوڈمز کو اور جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان سب کو مل کر بڑے خلوص اور ایما داری سے اس تمام معاملے

[Eng. Syed Muhammad Fazal Agha]

کو نمٹانا چاہیے۔ میری حزب اختلاف سے بھی میری ہی request ہے اور حزب اقتدار سے بھی میری ہی Request ہے ایم آر ڈی والوں سے بھی میری ہی Request ہے چونکہ جو کیمپٹر ہم پراچھالا جا رہا ہے یا موجودہ حکومت پر اچھالا جا رہا ہے آٹھ سال پہلے بھی یہ PNA کے نام سے آئے تھے اور ملک کو مسلح افواج کے حوالے کیا تھا اور پھر ہی مارشل لاء والوں کے ساتھ رہے ہیں ساڑھے سات سال تک یہ منظر رہے ہیں یا جو سب لوگ کسی وجہ سے یا ہر وہ گئے ہیں وہ کیمپٹر اچھال رہے ہیں میں ان سے request کرتا ہوں کہ خدا را اب ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ پھر اسی ملک کو مارشل لاء کے حوالے کر دیا جائے انہماں تقسیم سے کام لینا چاہیے اور سب کو مل کر کام کرنا چاہیے ملک کی بقا، سزوں اور مزدوروں اور یاتی لوگوں کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے اور آخر میں پوری قوم سے کہوں گا کہ گزشتہ دراصلات آئندہ راضیات - جو ہوتا تھا وہ ہو گیا قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کیجیے۔

Mr. Muhammad Ali Khan Hoti : Point of order, Sir, I want to put the record straight. When the honourable Member was speaking, I did not want him to interrupt at that time. In his speech, he stated that in this House nobody belongs to any political organization. There are people who do belong to certain political organizations e.g. I myself belong to the Muslim League party which created this country, and I am proud of the fact that I do belong to that organization so it was a baseless remark that there are people who do not belong to any political party, there are people who belong to various organizations.

Mr. Chairman : I think what the honourable Member means was that all of us sitting here, we have been elected on the basis of no party.

Mr. Hasan A. Shaikh : Sir, many people who are sitting here do belong to some political parties, but these parties are defunct, so they belong to defunct parties.

Mr. Chairman : At any rate the election has been on no political party basis. Syed Abbas Shah.

سید عباس شاہ : بسم اللہ الرحمن الرحیم - جناب چیئرمین! میں وزیراعظم پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ۱۲ اگست کو ایک تاریخی اعلان کیا جو وعدہ انہوں نے ۲۳ مارچ کو حلف لینے کے بعد قوم سے کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا وعدہ کیا جس میں اس نے تاریخ تک مقرر کر دی ہے اس ملک سے مارشل لاء اٹھایا جائے گا میں یقیناً اس اعلان کے بعد صدر مملکت کا بھی تہ دل سے شکریہ گزارا ہوں کہ اس نے اس قوم کو یہ موقع دیا کیوں کہ یقیناً ان کا توسط نہ ہوتا تو الیکشن ہوتے اور نہ یہ جمہوری دھوکے لیتے تیاری ہوتی اور نہ ہم اس فیصلے سے تیار ہوتے کہ یہاں سے مارشل لاء اٹھایا جائے گا یقیناً صدر فیاض الحق صاحب بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں میں اپنی طرف سے آپ کے توسط سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں سینٹ کے ادر تیرہ رکن کیٹی اور نیشنل اسمبلی کی ۲۹ رکن کیٹی کا شکریہ گزارا ہوں انہوں نے بہت کم سرمے میں وہ مرحلے طے کیے جس کے لیے ہمیں ایم آر ڈی کی طرف سے یہ طے دینے جا رہے تھے کہ صرف اس پر دس کھنڈے کے لیے یہ کیٹیاں مقرر کی گئی ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ جس کم مدت میں جس خلوص کے ساتھ یہ رپورٹیں تیار کی ہیں ہمیں یقیناً ان کو مبارکباد دینی چاہیے۔

میں سینٹ کیٹی کی رپورٹ پر اپنی تجاویز میں کچھ پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں کہنا چاہتا ہوں میں دقت زیادہ نہیں لوں گا جناب چیئرمین! میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میں کچھ پس منظر پیش کر دوں لیاقت علی خان صاحب کی وفات کے بعد ملک میں اقتدار سول سروسز کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے سے ملک میں بدترین قسم کا مارشل لاء لایا گیا جس کو ہم ۱۹۵۸ کا مارشل لاء کہتے ہیں جو ملک اسلام کے نام سے اور اسلام کے نظریے سے قائم ہوا تھا جس میں غلامی کے باوجود اسلامی قدیم موجود تھیں ان اسلامی قدیموں کو تباہ کیا گیا..... رشوت سے نا آشنا ملک کو رشوت جیسی

[Syed Abbas Shah]

لعنت دی گئی۔ جناب عالی! اس ملک میں شراب خانے کھولے گئے اس سک میں نائٹ کلب کھولے گئے وہ دن جو لاہور میں میلہ مولیشیاں کے نام پر منایا جاتا تھا جس میں سڑک اور روڈ پر شراب پلائی جاتی تھی اس دور کو ہم معمول نہیں سکتے۔

جناب دالا! اس دور میں وہ سول سروس ایک بیوروکریٹ کی حیثیت سے ابھرے اور انہوں نے ملک میں جو خرابیاں تھیں ان کو دور کرنے سی کوشش نہ کی اور جو ہمارے ادارے تھے ان کو تباہ کر دیا۔ ہمیں محتاج کر دیا سمگلنگ جس کا ہم نے نام تک نہیں سنا تھا شاہی گھروں سے نظمی اور سمگلنگ شاہی گھرانوں سے ہوتے لگی روڈ پر سٹ بکنے لگے صنعتوں کے پرمٹ بکنے لگے۔ ملک میں وہ افراتفری پیدا ہو گئی کہ جب وہ انتہا پر پہنچی تو قوم کے ساتھ ایک اور ظلم کیا گیا قریب کے مندر پر تھپڑ مارا گیا اور ایک دوسری مارشل لار لگائی گئی اس مارشل لاء سے جو حالات ملک میں رد پزیر ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہم نے وہ ادارے اور تنظیمیں تباہ کر لیں جو کہ اس ملک کی نظریاتی اقدار کی سرپرستی بلندی کے لئے کام کر رہی تھیں۔

اس کے بعد ہمیں ان بدمعاشوں کے حالات میں ایک چھٹی پرانی جمہوریت مل گئی اور اس جمہوریت کے دور میں جو جمہوریت کی ڈھکیاں اڑائی گئیں وہ بھی اب ہمارے سامنے ہیں کیوں کہ ہمارے وہ ادارے جہاں سے ہماری جمہوریت پل سکتی تھی جس کو ہم اپنے صوبہ سرحد میں چوک یا سرگہ کہتے تھے اور پنجاب میں پنجپٹ اور سندھ میں بھی پنجپٹ یا بیٹھک کہتے تھے وہ ادارے جو کہ ترمی ادارے تھے۔ جو کہ عوامی ادارے تھے ان کو ختم کر دیا گیا اور بیوروکریسی قائم ہو گئی وہ بیوروکریسی جس کو ہم کالی بیوروکریسی کہتے ہیں وہ مسلط ہو گئی جس نے ملک کے سب اداروں کو تباہ کر دیا کیوں کہ وہ عوام کو اپنے سامنے محتاج کرنا چاہتے تھے۔

اس جمہوریت کے دور میں جس جمہوریت کا نام ہم لے رہے ہیں

ہمیں ایک قانون سلاجس کو ہم ۱۹۷۳ء کا آئین کہتے ہیں لیکن جناب والا! اسی دور میں ۱۹۷۳ء کے آئین کی جس کے تحفظ کے لیے آج پھر آواز دینا ہے اٹھائی جا رہی ہیں جو دھجیاں اڑائی گئیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے ہیں اور ایک ایسا دور آیا کہ دوبارہ مارشل لا قائم ہوا۔

میں یقین سے کہتا ہوں کہ مارشل لا لگانا ایک برائے عمل تھا لیکن ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ اس مارشل لا کے دور میں جس کو آج ہم برا کہہ رہے ہیں یقیناً چارہ اور چارہ دیواری کی طرف قدم اٹھائے گئے ہیں اسلامی اقدار کی طرف قدم اٹھائے گئے ہیں اسلامی معاشرے کے لیے بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ ہمیں اچھی چیز کے متعلق صاف کہنا چاہیے یہ نہیں کہ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کہیں کہ جی مارشل لا برائے تھا۔ یقیناً ہم میں ایک Change آرہا ہے ایسے موقعوں پر جب چھٹی ہوتی تھی تو مشرابوں کی محفلیں جمالی جاتی تھیں لیکن آج یہاں اسلام کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو بڑی نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ہمیں فخر ہے ان حالات پر جہاں پر ہم آگے ہیں ورنہ یقیناً قوم کو اور ہمیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو کچھ کہتے کے قابل نہیں رہیں گے اور ہم ایک نیشنل قوم نہیں رہیں گے اور ہادی آئندہ نسلیں تاریخ میں یہ کہیں گی کہ ہم کامیاب نہ ہو سکے۔

میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں لیکن یقیناً میں اس دور کے ان اکابرین کو فرائح تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر ایک کوشش کی کہ اس مٹی ہوئی جمہوریت کو لوکل یا ڈیزل کی حیثیت سے دیہات سے شہروں سے اور تحصیل لیول پر زندہ کیا ایکٹیو میٹر آئے عوام حکومت میں شامل ہونے شروع ہو گئے ہیں میں یقیناً اس حکومت کو جو گزری ہوئی حکومت ہے میں اس کو گزری ہوئی حکومت نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہوں گا کہ جو حکومت گزری ہے اور گزرنے والی ہے اس حکومت کو یقیناً فرائح تحسین پیش کرتا ہوں اور اس میں کوئی عار نہیں سمجھتا ہوں۔ جناب والا! ہم آزادی کے ۳۰

[Syed-Abbas Shah]

سال بعد بھی یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ ہمارا قانون کیا ہونا چاہیے ہمارے ملک کی
 ہر حکومت کیا ہونی چاہیے۔

جناب چیئرمین : زدا مخقر کرنے کی کوشش کریں۔

سید عباس شاہ : یقیناً میں مخقر کرنے کی کوشش کروں گا لوگ کم ہیں

اور آپ کو میرے خیال میں یہاں ملیں گے بھی نہیں۔

جناب چیئرمین : ابھی کچھ ہیں۔

سید عباس شاہ : جناب! اگر آپ مجھے اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھتے

دیئے تو میں اپنی تجاویز کی طرف پیش قدمی کروں گا۔ اس وقت سینٹ کیٹی

کی رپورٹ کی پہلی شق میں یہ درج ہے کہ پارٹی کی رجسٹریشن یعنی پرانی جو

رجسٹرڈ پارٹیز ہیں وہ قائم رہتی چاہیں اور ان کی آئندہ رجسٹریشن نہیں ہوتی

چاہیے۔ میکرانے میں رجسٹریشن از سر نو ہونی چاہیے اس جواز میں کئی ممبر صاحبان بول چکے ہیں لیکن ایک

مشکل سامنے آسکتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر وہ پارٹیاں جو کہ اس وقت حکومت یا منتخب ممبروں

کے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ اس رجسٹریشن سے انکار کر سکتی ہیں اور ملک میں

ایک constitutional dead lock پیدا ہو

سکتا ہے۔ تو میں جناب لارڈ منسٹر کی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا

کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ جو پارٹیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں ان کی صورت ٹیمپورری

رجسٹریشن دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ اسٹیٹ ٹائم میں وہ اپنے نئے منشور کے

ساتھ آگے بڑھیں اور دوبارہ اپنی رجسٹریشن کریں۔

میری دوسری رائے یہ ہے کہ گورنمنٹ کو پارٹی کی تینجے کا کوئی اختیار نہیں

ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ صرف اور صرف پارٹی کے اختیار ہونا چاہیے۔ کہ وہ کس پارٹی کی تینجے یا اس کی رجسٹریشن

کے کیوں کہ ہمیشہ تجربہ یہی رہا ہے کہ حکومت اس کو اپنی

ذاتی منشا کے لئے استعمال کرتی رہی ہے تو ایگزیکٹو آرڈر پارٹی کی تینجے کے لئے استعمال نہ کئے

جائیں۔ تمیری میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل جو کسے وہ

سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے کیوں کہ اس طرح ہمیں یقین ہو گا کہ ایک غیر

جانبدار ادارہ قائم ہوا ہے اور امید ہے کہ ملک کی ہر پارٹی کو اس پر اعتماد ہو گا

اور جو بچھلی خر بیاں گڑھکی ہیں ان کے دوبارہ آنے کی صلہ نہیں ہوگی۔

مناب والا! آفری شق جس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یقیناً اگر پارٹیوں کو زندہ رکھنا ہے تو پارٹی ڈسپلن سختی سے قائم کیا جائے اور فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے اور جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہم Non-party Basis پر آئے ہیں کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا کہ آپ کس پارٹی میں جائیں اس شق کو رکھنا چاہیے اور مختلف دستور پڑھ کر جہاں پر ان کی مرضی ہو اس پارٹی میں جائیں لیکن یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک بار جب وہ اس پارٹی سے مناسک ہوں اگر وہ اس پارٹی سے باہر جانا چاہیں تو ان کو وہی چیزیں جنہیں ہماری سینٹ کی کمیٹی نے سفارش کیں انہیں تکالیف سے گزرتا پڑے گا اور ان کو اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے گی۔ یہی میری رائے ہے۔ شکریہ۔

مناب چیمبرین: بہت بہت شکریہ۔ آج کے پروگرام کے مطابق چار اور سپیکر رہتے ہیں اگر آپ آدھا گھنٹہ اور تکلیف گوارا کریں تو میرا خیال ہے وہ بھی تقریر کر سکتے ہیں۔ کل کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ جی جناب لیڈر آف دی ہاؤس میرے خیال میں اس کو ختم ہی کر لیں۔

ایک معزز ممبر: مناب والا! کوہم پورا نہیں ہے؟

مناب چیمبرین: کوہم پورا ہے پیچھے ہمارے چھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔

میر نبی بخش نہہری: مناب والا! ہم نے business کیا ہے کہ ہمیں کل تک اپنا مکمل کوتاہی ہے۔ اس لیے میں ممبران سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آدھا گھنٹہ اور مناب چیمبرین صاحب کی تجویز کے مطابق بیٹھیں اور تقاریر کو سنیں اور اپنے آج کے business کو مکمل کریں۔

معزز اداکین: ہمیں منظور ہے۔

مناب چیمبرین: بہت شکریہ۔

Mir Ghulam Hyder Talpur : Very well, Sir.

Mr. Chairman : Thank you very much.

Mr. Ghulam Hyder Talpur : With the name of Allah who is very kind and beneficent!

Mr. Chairman, Sir, prior to my speech on Special Committees Report on Revival of Political Parties in our country, I feel morally bound to express few words about our beloved Prime Minister, Mr. Muhammad Khan Junejo, who, by announcing definite date for lifting up Martial Law, has fulfilled an old demand of the nation which, otherwise, could not be materialized or visualized in the ordinary course. I congratulate the worthy Prime Minister on his bold and timely declaration. He has proved himself worthy of great leadership of this noble nation of the Muslims. It is my firm conviction Sir, that, come what may, the decision of Prime Minister shall be upheld under all circumstances.

Mr. Chairman, Sir, I may submit that except for the one or two minor suggestions, I have nothing in my mind just to oppose unnecessarily. Sir, the hard labour made by the Members of the Special Committee appears to be quite fit and in its proper form. What has been confusing, confronting and bothering my mind ever since the publication of this report, is the only factor that is crossing of floor. With Report's para (a), I quite agree, Sir, therefore, no necessity of going through it. As regards, para (b), I do not agree with it, Sir, therefore, I must read out its contents to be more clear. If a Member persistently abstains from voting without reasonable cause or casts vote against the directions of his party, the latter may approach the Election Commission to pronounce his having been unseated and an appeal from this decision should lay before the Supreme Court.

Now, Sir, in this case, a member abstaining from voting, of course against directions of his party that is to say against the wishes of some executive members of the party. They can, if they desire so, let you unseated. I feel, it is hardly fair at least in our society where

difference of opinion is the order of the day, Sir. The normal relationship is almost sustained. As regards para (c), Sir. If a member elected independently asks to join a party he will be deemed to have been elected on the ticket of that party. I do not agree with this, in so far as it should be applied to the present members, Sir, elected in partly-less elections independently. Elaborating my arguments, Sir, I shall further put it in this way, Sir, I feel that this should be applied only after next general elections which will be held on party basis. My reason for this is that the recent elections have been held on part-less elections system and, therefore, it would not be proper to make this clause applicable to the present Members of the Senate or Assemblies, who have been elected on no-party ticket but have a mandate from the electorate that they are independent and they remain independent. Thank you, Sir.

Mr. Chairman : Thank you very much. Mir Hussain Sahib!

میر حسین بخش بنگلہ زئی : جناب سپیر میں، آج اس محترمہ ہاؤس کے سامنے
سپیشل کمیٹی کی رپورٹ زیر بحث ہے۔ مجھے کوئی مقفی، مصفیٰ مباح تقریر
کرنے کا نہ کوئی شوق ہے اور نہ ہی میں اس کی خواہش رکھتا ہوں، نہ ہی میں
اس ہاؤس کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دل کی بیٹھ اس فرد نکالنا
چاہتا ہوں، مگر مجھے انوس ہے کہ مجھے تقریر کرنے کا وقت آہر میں دیا گیا ہے۔
جناب دالا! میں اس کمیٹی کے عمران کو مبارک باد کا مستحق سمجھتا ہوں
جنہوں نے کافی تحقیق کے بعد، اس رپورٹ کو اپنے طور پر مرتب کیا اور اسے
اس ہاؤس کے سامنے پیش کیا۔ افتلات رائے کا ہر شخص حق رکھتا ہے اور
اس حق کو میں بھی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اردو ترجمہ کے ساتھ اور اس
کی بائٹنگ کے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ اس محترمہ ایران کے محترمہ رکتی جناب
فضل آغانے بڑے اچھے پیرائے میں بیان کیا ہے لہذا ہمیں اس کے انگریزی الفاظ
کی طرف جانا پڑا۔ جناب دالا! کچھ تجویزی میرے ذہن میں ہیں میں صرف اتنی
تجویزوں پر اکتفا کروں گا۔
جناب دالا! رپورٹ کی شق نمبر ۸ میں ذیلی شق (اے) جو لکھا ہوا ہے

[Mir Hussain Bakhsh Bangulzai]

اس کے مطابق

Who will determine and establish that a party is favoured or formed at the instance of a foreign Government or a political party.

یہ ایک Question ہے۔

تر میں وزیر عدل وانصاف سے التماس کروں گا وہ اس بات کی وضاحت فرمائیں جو کہ بہت فروری ہے پھر اس کے بعد اپنی میں جو لکھا ہوا ہے اس کی تعریف کی جائے یعنی۔

Affiliation and association with foreign parties may be defined.

یہ فروری ہے۔ اسی طرح

'receives any aid, financial or otherwise, for any purpose whatsoever' is very wide and can be stretched to unlimited extent.

اس کی درستگی کی ضرورت ہے رجسٹریشن آف پولیٹیکل پارٹی کی شق نمبر ۱۰ ہے، اس میں میں یہ تجویز پیش کروں گا

If the date 16th October, 1979 is substituted by 4th July, 1977. All political parties will get a chance to register themselves under this Act which is being made. Those who do not avail of this opportunity would have only themselves to blame. In fact, this can be used against them as political argument.

I would like to say something about Section 10(2)–

10. (2) 'Within a reasonable time', may be defined because this can create dispute. Similarly, the Election Commission while refusing registration must give reasons for such refusal and these reasons must be substantiated with evidence. The law must not be vague. It must be clear.

In the same para No. 10 at 3 "the above said period" the suggestion for this was that this 'above said period' must be defined.

Then comes Clause 10 (vii) (b). In this it is said Commission should be given a time limit to frame these rules. The final approval of these rules be given by the Parliament.

Now, there is registration of parties. A party registration should not be de-registered if an office bearer violates the declaration given at the time of registering the party and that individual office bearer be punished and not the party. An ordinary member of the party should not be punished for the sin of its leader.

In its (b) clause it is stated :

“against morality or public order”. These are two vague expressions. Therefore, this may be deleted.

In its (c) clause it is stated :

“If one party organizes a campaign from abroad against another party” Then what will happen? It is my question.

“Next is that even a party getting cent per cent votes from say Baluchistan shall be disqualified . . .” There should be no percentage. A party rejected by people shall disappear any way. So, if at all this provision is to be retained, it should not apply to minority Provinces.

Lawful political activitiesIn this connection I would like to state that it should apply only to office bearers and not to all members of the party.

In Clause 11 (ii) I would like to state that we should say “Public meeting” and not just “meeting”. I would suggest ‘public meeting’ in this clause.

In connection with de-registration of parties I would like to state if a party is banned, its funds are frozen, and leadership arrested, who will defend it in the Supreme Court. It is vague and it should be clear.

جناب گرامی قدر چیمبر میں صاحب! ان معروضات کے ساتھ بیس صرف دو چار باتیں اود عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ کا جہاں تک تعلق ہے

[Mir Hussain Bakhsh Bangulzai]

اس سلسلے میں بہت مفصل باتیں ہوتی رہی ہیں۔ میں آپ کے توسط سے اس ایران کے عہد نامہ کے ذریعے پورے ملک کے لیے صرف ایک تجویز پیش کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہمارے ملک پر بیت گیا جو کچھ ہماری غلطیوں سے اس ملک نے سہارا دیا جو کچھ ہوسکا اور جو کچھ نہ ہو سکا ان تمام باتوں کا ایک واحد صل میرے ذہن میں صرف ایک ہے جس کا نام ہے اتحاد۔

آئیے آج اس نعرہ سے ہم اس بات کا اعلان کریں کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے یہ وطن ہمارا وطن ہے اس معاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں کے ہم ہی ذمہ دار ہیں اگر ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور اگر ہم اس بات کا دوسرا اعلان کرتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا مادہ وطن ہے اور اس ملک کی بقا اور اس ملک کی سلامتی صرف ہماری ذمہ داری ہے تو آئیے آج اس بات کا بھی اعلان کریں کہ ہم نے انتہائی دیانت کے ساتھ انتہائی ایمانداری کے ساتھ انتہائی خلوص کے ساتھ اپنی ہر چیز کو اس ملک کی بقا کے لیے قربان کرتے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا اور اس ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب چیرمین : بہت بہت شکریہ ، جناب شاد محمد خان صاحب
جناب شاد محمد خان : جناب چیرمین صاحب ! قبل اس کے کہ میں اس رپورٹ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر دوں۔ میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال جس آزدی بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے اور اس جس آزدی میں جو ۳۸ سال سے منایا جا رہا ہے ہر سال یہ تجدید عہد کیا جاتا ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس لیے اس میں اسلامی شریعت کا دور دورہ ہوگا۔ صدر صاحب نے بھی اسی بل برائے پر عوام سے ووٹ حاصل کر کے ۲۳ مارچ ۱۹۸۵ کو بطور صدر مملکت عہدہ سنبھالا ہے۔ یہ ہاؤس جو وجود میں آیا ہے وہ بھی اسی ایما پر کہ وہ ملک میں مکمل شریعت کا نفاذ کرنے میں سمد و محاذ ہوگا اس کے نتیجے میں یہ ایران تشکیل دیا گیا ہے۔ لہذا میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ کلووا گھونٹ پیا

جائے اور اس پمیلنج کو قبول کیا جائے کہ اس ملک میں مکمل شریعت کا نفاذ آج سے ہو یا کل سے ہو ہونا چاہیے۔ جب ہم اس شریعت کے مکمل نفاذ کی طرف قدم اٹھائیں گے تو یہ سیاسی پارٹیوں کی بجائی کا ایکٹ جو ہے یہ بے معنی ہو کر رہ جائے گا اور جب اسلامی نظام کا کلی نفاذ ہو گا تو وہاں یہ گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ اس وطن میں کتنی پارٹیاں ہوتی چاہئیں۔ اور میں یہ کہنے کی صدارت کروں گا کہ صرف ایک ہی پارٹی رہے گی جس کو حزب اللہ کا نام دیا جائے گا مخالفت میں جو آئے گا اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پارٹی پنی ہی نہیں سکے گی۔ اب میں یہ عرض کرنا فرودی سمجھنا ہوں قاضی عبداللطیف صاحب نے ایک بل اس ہاؤس میں پیش کیا جو کہ سٹیٹونگ کمیٹی کے سپرد کیا گیا کہ۔ اسی ملک میں کلی شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے کیوں کہ یہ بات تسلیم کی جا چکی ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اب اس کو اپناتے جانے کے لئے قدم اٹھایا جا رہا ہے قاضی عبداللطیف صاحب کو چاہئے تھا کہ وہ اس رپورٹ کے ساتھ یہ امتلائی نوٹ دے دیتے کہ مجھے یہ سیاسی پارٹیوں کی بجائی کے ایکٹ سے قطعاً اتفاق نہیں ہے اسی طرح دوسرا امتلائی نوٹ جو اس سیاسی جماعتوں کی بجائی کے ایکٹ میں آیا ہے وہ مولانا قاضی حسین احمد کا ہے انہوں نے مارشل لاء کے ماتھے کے لئے تو امتلائی نوٹ لے دیا ہے۔ کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ مسلک ہے اور یہ پروگرام ہے کہ اس ملک میں کلی شریعت کا نفاذ ہو، برأت کرنی چاہئے تھی کہ وہاں بھی امتلائی نوٹ دیتے ہیں یہ نظام بالکل منظور نہیں ہے ریوائنول آف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ (Revival of Political Parties Act) کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اسی لئے وہاں یہ امتلائی نوٹ آجاتا تو ہم برأت سے کہتے کہ یہ لوگ اس نظام کے لئے مخلص ہیں اور وہ شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں۔

جناب مالا! ہم اس قوم سے کب تک مذاق کرتے رہیں گے۔ کب تک اسی کو مالتے رہیں گے وہ کام جو شروع سے علماء کرتے رہے۔ اس قوم کو گمراہ کرتے رہے یا صحیح راستے پر لاتے رہے اور شریعت کا نام دے کہ اسی قوم کو ابھارا جائے ہے

[Mr. Shad Muhammad Khan]

اسی کی اڑے کر حکومت نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اس میں کافی پیش رفت ہو چکی ہے تا معلوم اس میں کون سی رکاوٹ ہے کہ یہ برائے مندرجہ اقدام موجودہ حکومت کیوں نہیں کر سکتی اگرچہ کافی پیش رفت ہو چکی ہے اور اسلامی نظام کو نافذ کر کے کافی اصلاحات کی ہیں۔ ہذا اس سلسلے میں مختصر کرتے ہوئے کیوں کہ وقت بڑا تازہ کر رہے ہیں یہ کہوں گا کہ اگر یہ بات ہو سکتی ہے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ترمیم ہو جائے گا اگر یہ ضروری ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کو revive کیا جائے تو میں دو تین تجاویز پیش کر کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ پارٹیاں جو ۱۹۷۹ء میں رجسٹرڈ ہوئی ہیں ان کا وجود اس وقت کیا تھا اور آج ان کا بیٹن کیا ہے اگر آپ نصر اللہ خان کی پارٹی کو لیں تو مانسہرہ میں اس کا وجود ہی نہیں ہے ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ اسی مسلم لیگ کے نام سے چار پانچ پارٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان کا آج وہ وجود نہیں ہے جو اس وقت تھا۔ جناب والا! میں یہ پرتور سفاقتی کر دوں گا کہ نیشنل اسمبلی کی رپورٹ اس سلسلے میں بڑی جامع ہے اور سینٹ کو اس سے اختلاف ہے تو ان سرنوز ان پارٹیوں کی تشکیل ہو جائے تاکہ سب لوگوں کو موقع ملے، اس میں پرانے مسلم لیگی بھی شامل ہوں یا پرانی پارٹی کی بقا کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہوں اور نئے لوگوں کو بھی موقع دیا جائے تاکہ ایک منظم طریقے سے پروگرام پر عمل کیا جائے۔

دوسری بڑی بات وفاداریاں تبدیل کرنے پر حکومت کا کنٹرول ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کے ایکٹ میں ضروری ہوتا چاہیے میں آپ کو وہ دور یاد دلاؤنگا جب ریپبلکن وڈ میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت اکثریت کا اعتماد کھو چکی تو اس کے لئے ۵۶ کا آئین معطل کیا گیا۔ ۲۱ مارچ کو لوگ جشن جمہوریہ منا رہے تھے لیکن آئین معطل تھا کسی نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ ہم اس آئین کی خوشی میں کیوں جشن منا رہے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوا وفاداریاں بدل گئیں، وہ آئین تقسیم ہوئیں اور نئے آئین طریقے سے پھر ڈاکٹر خان صاحب کو مسلط کر کے اس جمہوریت کا مذاق اڑایا گیا۔

ہذا یہ کنٹرول جو تجویز کیا گیا ہے ضرور ہونا چاہیے۔ تاکہ ان لوگوں پر چیک ہو۔ آزادانہ طور پر مگر حکومت کے لیے پھرتیاتی کا پاسٹ نہ بنیں اور اپنی پارٹی سے دفاعی تبدیلی نہ کرتے رہیں۔ اس لیے چیک اور سلیس برمی فروری پر جناب والا! اس کے بعد جو نشانہ ہی محمد علی خان نے کی ہے۔ داتھی اس ملک میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بعض پارٹیاں بیرونی امداد کے بل بوتے پر چل رہی ہیں ہذا ان کے حسابات پر کنٹرول انتہائی ضروری ہے تاکہ ان کے وسائل کا پتہ لگ سکے تاکہ ان پر چیک ہو سکے۔ اگر وہ اس قوم کے ساتھ مخلصی نہیں ہیں اور اپنے وطن کی سالمیت پر اعتبار نہیں رکھتے۔ اور اپنا وقت گزارتے ہیں تو ان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ ان کے حسابات کی پڑتال ہو اور اگر وہ اس معیار پر پوری نہیں اترتیں تو ان کو ختم کیا جائے۔ ہذا وقت کی نزاکت کے ساتھ میں نے آپ کا وقت لیا ہے میں آپ کا مشکور ہوں۔

جناب چیمبرلین: بہت بہت شکریہ، سلسلہ دراصل راہ حقیقت کی تلاشی کا ہے۔

ع جنگ ہفتادو دولت ہمہ را عذر بنہ
چوں ندیدند حقیقت را افسانہ نردند

تو یہ پارٹیاں چلتی رہیں گی۔ آخری سیکر جناب جو گیزی صاحب ہیں مجھے افسوس ہے آپ سے آخر میں ہی درخواست کہنا چاہی لیکن یہ وہ کام ہی کچھ ایسا تھا۔
نواب زادہ جہانگیر شاہ جو گیزی: میں بھی اسی انتظار میں اپنا وقت کاٹ رہا تھا کہ کبھی نہ کبھی وقت ملے گا۔

جناب چیمبرلین: شکریہ، ارشاد فرمائیے۔

نواب زادہ جہانگیر شاہ جو گیزی: جناب عالی! چونکہ میں اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں جو کچھ ہم نے کہا اور جو تجویزی ہم نے پیش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اس پر مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے میں صرف اس مقصد کے متعلق اپنے چند خیالات

[Nawabzada Jahangir Shah Jogezi]

کا اظہار کر دے گا پورٹیکل پارٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کا شعور بیدار کریں ان کو اپنے حقوق کا احساس دلائی رہیں اور ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک تنظیم بنائیں اور وہ آئینی طور پر اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت بنائیں نہ یہ کہ اس کے مقصد کا حصول صرف حکومت ہو۔

اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ شعور کیا ہے؟ کون سا شعور بیدار کرنا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کئی شعور بیدار ہیں۔ ہماما دین ایک مکمل مضابطہ حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ جو دین مقرر کیا ہے اس میں صرف یہ چیز ہے کہ برائی کو مٹاؤ۔ اچھائی کو بڑھاؤ۔ ہذا اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ہی پورٹیکل پارٹی بناتے ہیں، لوگ ہی بگاڑتے ہیں اس میں سرکار کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا، کہ پاکستان بنتے کے بعد سیاسی پارٹیاں ڈپٹی کمشنر کے کنڈھوں پر ایسی پی کے کنڈھوں پر آئیں ان کے گھروں میں بیٹھ کر بوگسی نام تجزیہ کر لیں اور جو ایک دفعہ کرسی پر بیٹھا، اس کو کسی نے نہیں چٹایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمہوری عمل خود سیاسی پارٹیوں نے شروع نہیں کیا جس کی وجہ یہ ہے کہ انہی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے بیوروکریسی اتنی طاقت ور ہو گئی کہ انہوں نے ان کو نوکر بنایا جو کہ ان کے نوکر تھے تو مجبوراً اس ایکٹ کو لانا پڑا۔ پاکستان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے پاکستان ریفرنڈم سے بنا ہے اور ہر جگہ ریفرنڈم ہوا ہے۔ اس آئی مخالفت بھی ہوئی ہے اور وہ مخالفت اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی موجود ہے کیوں کہ ہماری حکومت غلطی پر غلطی کرتی رہی اور اس کا اعادہ ہوتا رہا اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی آئیندہ لویا جی اور اسلام کے اصولوں کے منافی کسی چیز پر کوئی قدغن ہو تو ہم بینک میں جا کر بینک پیٹ فارم پر اسلامی نظریات کی تشہر کریں اور لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ اسلامی نظام جو ہے یہ واحد نظام ہے جو دنیا میں اخوت سادات، اور تلامی مملکت کا تصور لاتا ہے محبت لاتا ہے، جب کہ کسی اور نظام میں بے شک دروٹی مل جاتی ہوگی لیکن محبت نہیں ملتی۔ بے شک ان کی اقتصادی ترقی بہت

اوپر کے مقام پر ہوگی ان کو سائنس نے بہت کچھ سہولتیں دی ہوں گی لیکن ان کو تکیں قلب میسر نہیں ہے یہ چیزیں ہم اس قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے لے سکتے ہیں۔

ہذا اتفاق چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک نیا ناپڑا کہ ایک تو چیک (check) ہو، کیوں کہ ابھی تک بینک ان لوگوں کی intention سے یا خبر نہیں ہے یہ ریجنل باتیں ہیں اور وہ لوگ جو ریجنل باتیں کرتے ہیں وہ مجبور ہیں میں نے وہ باتیں خود اٹھائیں کہ اگر ہمارے چھوٹے مندروں کے لیے اس طرح کی پرنٹنگ دیکھ دیں تو ہمارے حقوق بہت تفت ہوتے رہیں گے۔ ہذا اس کے لیے ہم نے تجویز کیا ہے کم لاکم اس کے دو ممبر اس علاقے سے ہوں وہ حالت کو دیکھیں گے۔ کیوں کہ as a whole

دیکھنا ایک چیز ہوتی ہے کہ جو اپنی ضروریات ہیں وہ دوسرے کی ہیں اور ریجنل اور چیز ہوتی ہے۔ تیسری بات ہم نے اس میں کہ اسٹگ دی فلور دکھی تھی۔ کہ اسٹگ آف فلور بڑی اہم شق ہے اور ضروری ہے کہ اس میں incorporate ہو، اگر ایک ممبر ایک پارٹی سے آتا ہے صرف مانی منتضت کی وجہ سے یا ذاتی سہارے کی وجہ سے تو یہ اخلاقاً بھی غلط ہے اور اس نظام کے لیے بھی خطرناک ہے اس کے ساتھ ہی اسلامی لحاظ سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً کبھی غلط بات یہ امر نہیں کرتے تھے۔ فرماتے تھے۔ وتعاونو علی البر والتقوا، تانوا وعلی الاثم والمعاصی ۵ اور نیکی اور پرہیز گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا کرو۔

یہ ایک مسلمان کے لیے اسلام کا ایک اساسی قانون ہے ہذا ایک دوسرے کے ساتھ نیک کاموں میں تعاون ہونا چاہیے لیکن اگر ہماری پارٹی ایک غیر اسلامی شق پر متھلو جائے اور ہم کہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے۔ تو بناب سیٹ مانی ہے حالانکہ ہم اس لیے اسکا دفاع کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے اور اگر وہ پارٹی کی ضلالت و بدی کرتا تو یہ تشریح کرنی پڑے گی اگر ایک آدمی بے ایمانی سے

[Nawabzada Jahangir Shah Jogezi]

نہیں جاتا ہے اس کی شرارت نہیں ہے اس کا صرف یہ گمان ہے تو اس کے لیے یہ سزا نہیں ہو گئی چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے فلاحات یا اس کی رائے کے فلاحات رائے دے تو وہ اسی بات کا مجرم بن جائے کہ وہ پارٹی ڈسپلن میں نہیں رہا پارٹی ڈسپلن کے بارے میں خود اسلام کہتا ہے۔

الذین آمنوا اھیبوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم و خان تناہ عمرتی
شئی ۛ فرودہ الحالی اللہ و الرسول ان کلمہ لومنون باللہ والیوم الاخر۔
ذالک خیر و احسن تاویلا۔

اسلام ہی نے آپ کو یہ شرعی نظام دیا ہے یعنی مسلمان اگر پانچ ہوں ان میں سے ایک ان کا بیٹرا ہوتا ہے۔ اور جمہوریت ہو وہ مشورہ سے ہو۔ چاہے گاؤں ہو ملک ہو، چاہے ایک ضلع ہو ہمارا اس وقت حکومت کے ساتھ تعاون ہے تعاون اسلام کی بات پر ہے۔

آخر میں ایک بات کہوں کہ پاکستان میں تین ایسے خرابی فحمت افراد تھے جو اگر سیاسی غلطی نہ کرتے تو شاید آج ان کے مقبروں پر لوگ زیارت کرتے جاتے اور تو ایرب خان تھا۔ اگر جنرل ایرب خان تاحہ جناح کے مقابلے میں صرف یہ کہہ دیجئے کہ آپ قائد اعظم کی بیٹی ہیں ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تو اس وقت اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوتا کہ شاید پاکستان میں اس کی نظیر نہ ہوتی۔

دوسرا بھٹو تھا۔ اس وقت میں نسیم مجاڑی کے پاس بیٹھا تھا تاج محمد منتر تھا اس نے مجھ سے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں بھٹو کو کیا بتاؤں۔ میں نے کہا کہ آپ بھٹو کو کہیں کہ اگر لادال شہرت مانگتے ہو تو الیکشن کر لو مگر خود مت کھڑے ہو آپ کی مخالفت ختم ہو جائے گی اور اگر آپ لالچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جائیں لیکن الیکشن فرود کروائیں۔ تیسری بات آپ کو یاد ہو گا جیسے کینیڈا میں بات ہوئی بھٹو نے کہا کہ تاج محمد خان افغانستان کے ساتھ lead کرے آپ نے اس کا انجام دیکھ لیا۔

تیسرا آدمی خود جنرل صاحب ہیں۔ جنرل صاحب کا یہ پہلا موقع ہے پہلے

مارشل لاء کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ دوسرے مارشل لار پر جو سبھی
ضمان کا حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب یہ شریف آدمی ہے اور غارتی آدمی
ہے۔ اور بہت ساری اس میں خوبیاں ہیں لیکن اس پر ایک دانش ہے لوگ
اُسے پسند نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے لوگوں نے مارشل لار مانگا تھا لیکن مارشل
کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ مریض کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد
جو اچھے جراثیم ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں مگر یہ اس کی مہربانی ہے اور
میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوش قسمتی ہے بالآخر وہ اکیلا نہیں ہے مجھے جہاں
تک معلوم ہے اس نے کئی دفعہ الیکشن کرانے کی کوشش کی مگر حالات کچھ ایسے
تھے وہ ایسا نہ کر سکا بہر صورت دیر آید درست آید آخر اس نے الیکشن
کر لیا اس نے دو باتیں کیں اسلامی نظام قائم کیا

ہماری طاقت ہمارے فتح صرف اسلام کے دہانے میں قرآن کے پر عملی کرنے
سے ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا اونچا ہو گا اس کو مارشل لار کے بجائے
خدا پر اعتماد ہوتا چاہئے اس کو اپنی قوم پر اعتبار ہوتا چاہئے۔ پاکستان
جس وقت بنا آپ کو پتہ ہے کیا حالت تھی ہم کو کیا پتہ تھا کہ پاکستان کیا
چیز ہے۔ لیکن سرداروں نے دوٹ کر دیا۔ پاکستان کو دیا۔ کسی سیاسی لیڈر
نے نہیں دیا۔ کسی فوجی نے نہیں دیا۔ لوگوں میں اسلام کا جذبہ تھا۔ اور ابھی تک
ہے۔

آج جب فائرنگ کے متعلق بات ہوئی تو مجھے اس وقت ایک بات کرنا تھی
مگر آپ نے مجھے موقع نہیں دیا۔ جو جہاز ہم پر آتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں اور
جہاد ہم پر فرض ہے تو ہم پر انگریزوں کا ایکٹ کیوں لگا دیا گیا ہے انگریز تو
ڈرنا تھا کہ کہیں یہ لوگ باغی نہ ہو جائیں۔ ہم تو صرف اپنی حفاظت کے لئے
کہتے ہیں تمام جنگی علم کا حصول ہم پر فرض ہے کہ سیکھیں۔ لڑنا فوج کا کام نہیں
قوم کا کام ہے۔ ہم سب چھوٹے بڑوں کا کام ہے۔ ہمارا یعنی سفارشات
کیٹی کا یہ مقصد تھا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں ہمارے ادا کین جن سفارشات

[Nawabzada Jahangir Shah Jogezi]

میں تزامم کرتا چاہتے ہیں یا اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس پر بات ہوتی چاہیے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین: آج جن اصحاب نے خطاب کرنا کی خواہش کا اظہار کیا تھا ان کی لسٹ فزادہ صاحب کی تقریر سے پوری ہو گئی ہے اس طرح اس بحث میں ہمارے بیس اصحاب نے حصہ لیا ہے کل کے لیے ۱۸ یا ۱۹ حضرات ہونگے۔ آدھے سے زیادہ انشاء اللہ ہو گئے ہیں۔ باقی کل تک ہو جائیں گے۔ ذرا تقاریب کو اور مختصر رکھیں۔ میں آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ گزارا ہوں اور انشاء اللہ کل سو پانچ بجے اسی ہال میں ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ اجلاس اس وقت برخواست کیا جاتا ہے۔

[The House adjourned to meet at quarter past five of the clock, in the afternoon, on Thursday, the 22nd August, 1985]